

(رضی عنہم)

# اصحاب رسول ﷺ کی یادیں

صحابہ کرام (رضی عنہم) کے سچے واقعات

تالیف

حضرت مولانا عبدالرحمن مظاہری

ناظم مجلس علمیہ حیدرآباد دکن

ادارہ اسلامیات

# اصحابِ رسول کی یادیں

علماء دیوبند کے علوم کا پاسان  
دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

حنفی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین  
ٹیلیگرام چینل

تالیف

حضرت مولانا محمد عبدالرحمان منطابہری  
ناظم مجلس علمیہ حیدرآباد دکن

مجاہدیت

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم

دارالافتاء اسلامیہ

کراچی، لاہور

## جملہ حقوق بحق ادارہ اسلامیات محفوظ

اس کتاب نسبت حضرت مولانا محمد عبدالرحمن مظاہری مدظلہ کی کتابوں کے قانونی حقوق ایک باہمی معاہدے کے تحت پاکستان میں ادارہ اسلامیات کو حاصل ہیں کسی دوسرے ادارہ یا ناشر کو اعلیٰ مباحث کا حق حاصل نہیں

پہلی بار۔ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ  
 : تمام۔ اشرف برادران سلمیہ الرحمان

پبلشرز: بک سٹیشن، الیکٹریٹیٹیو

۱۔ ایڈیشن: مومین روڈ، چوک آروہ بازار، کراچی  
 ۲۔ ایڈیشن: ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔ پاکستان  
 ۳۔ ایڈیشن: دینا ناٹو میٹیشن، مل روڈ، لاہور

## پتے کے پتے

۱۔ امروہ العارف:	ڈاکخانہ دریا، اطولہ، کراچی نمبر ۱۳
۲۔ آئینہ دریا، اطولہ:	جامعہ دریا، اطولہ، کراچی نمبر ۱۳
۳۔ ۱۹۰ نامت:	۱۹۰، جامع روڈ، کراچی
۴۔ بیت القرآن:	آروہ بازار، کراچی
۵۔ بیت الکتاب:	نزد اشرف المدارس، گلشن، مقابل کراچی
۶۔ بیت العلوم:	۲۰، ناصر روڈ، لاہور
۷۔ ۱۹۰، بیانات اشرفیہ:	۱۹۰، دیوبند، بزرگیت مکان شہر

## ابوالحسن علی احسنی الندوی

مولانا محمد عبد الرحمن صاحب  
مولف کتاب ہذا کا خصوصی عربی تعارف جو ایک  
مقبع پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ سے مکتبہ  
میں حاصل کیا گیا تھا۔ ترجمہ درج  
ذیل ہے۔

بعد حمد و صلوة :-

حضرت مولانا محمد عبد الرحمن بن احمد شریف صاحب حیدرآبادی سے میں بخوبی واقف ہوں، مولانا علوم دینی و اسلامی کے فاضل ہیں، جنوبی ہند کے دینی و علمی حلقوں میں آپ کی بیش بہا خدمات رہی ہیں، مولانا نے ہندوستان کے مختلف علمی اداروں سے استفادہ کیا ہے آخر میں مدرسہ مظاہر علوم ضلع سہارن پور (یوپی) سے علوم دینیہ کی تکمیل کی اور اصول دین و علم شریعت میں اعلیٰ سندیں حاصل کیں، تحصیل علم کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں تقریباً پندرہ سال درس و تدریس کے خدمات انجام دی ہیں۔ اسکے علاوہ مولانا موصوف نے عامۃ المسلمین کی تعلیم و تربیت کی جانب بھی خصوصی توجہ دی، اس سلسلے میں اہل علم حضرات کیلئے ”مجلس علمیہ“ کی تاسیس رکھی جس کا دینی و علمی حلقوں میں اثر رہا ہے۔

چونکہ مولانا توحید و سنت کے داعی و علمبردار تھے اپنے شہر میں اہل بدعت کی مخالفتوں سے دوچار ہو گئے، اسی سال موصوف نے فریضہ حج ادا کیا اور انکی خواہش ہے کہ کچھ عرصہ انہی مقامات مقدسہ میں رہ کر علمی و دینی خدمت انجام دیں چنانچہ انہیں اس مقصد کے حصول کیلئے تعاون کی ضرورت ہے، مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ مولانا کے مقصد کی تکمیل ہو، اس بار سے میں جو بھی ان کے ساتھ معاونت کریں میں ان کا شکر گزار رہوں گا۔

والسلام

کتبہ الفقیر الی اللہ

ابوالحسن علی احسنی الندوی

مکتبہ المکتبہ  
۲/ صفر ۱۳۹۵ھ

## فہرست عناوین

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۹	تین سچے وفادار	۷	دیباچہ
۶۷	حدیث الکفل	۱۹	سیدنا ابو بکر صدیق رضی
۶۹	حضرت ابو احمد بن محشر رضی	۲۲	سیدنا عمر بن الخطاب رضی
۷۰	ایک مخلص صحابی رضی	۲۴	سیدنا عثمان بن عفان رضی
۷۱	ایک جذامی خاتون رضی	۲۷	سیدنا علی بن ابی طالب رضی
۷۱	ایک خستہ حال صحابی رضی	۲۹	اسلام کا پہلا جہاد، پہلا مجاہد
۷۲	ایک انصاری صحابی رضی	۳۰	سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی
۷۳	ایک غیر معروف صحابی رضی	۳۱	حضرت ابو جحیفہ رضی
۷۳	حضرت خزیمہ اسدی رضی	۳۲	ایک غیر معروف صحابی رضی
۷۴	حضرت وائل بن حجر رضی	۳۳	حضرت انس بن النضر رضی
۷۴	حضرت محمد بن عبد اللہ رضی	۳۶	حضرت زید بن دثنہ رضی
۷۵	حضرت رافع بن خدیج رضی	۳۹	حضرت خبیب بن عدی رضی
۷۵	ایک نو مسلم صحابی رضی	۴۲	حضرت زید بن حارثہ رضی اور سیدہ ام ایمن رضی
۷۶	حضرت جناب بن الارت رضی	۴۳	{ حضرت زید بن حارثہ رضی
۷۷	حضرت ابو مسعود رضی	۴۴	اور ان کی کرامت
۷۸	حضرت ثابت بن قیس رضی	۴۶	بیر معونہ کے شہید
۸۰	حضرت عمرو بن الجموح رضی	۴۹	تین نیک خطا کار

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۷	سیدنا حنظلہؓ	۸۰	حضرت عبد اللہ بن عمروؓ
۱۱۸	سیدنا مصعب بن عمیرؓ	۸۱	حضرت سعد بن ربیع انصاریؓ
۱۲۰	سات رفیق جنت	۸۲	ایک نابینا صحابیؓ
۱۲۱	حضرت سعد بن ابی وقاصؓ	۸۳	قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان
۱۲۲	حضرت مالک بن سنانؓ	۸۵	حضرت عبد اللہ بن سلامؓ
۱۲۲	حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ	۸۸	حضرت ابو ذر غفاریؓ
۱۲۳	حضرت قتادہ بن نیمانؓ	۹۲	حضرت سعد بن معاویہؓ
۱۲۴	حضرت عبد اللہ بن جحشؓ	۹۳	ثمامہ بن اثمالؓ
۱۲۶	حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرامؓ	۹۵	صلح حدیبیہ کے جانثار
۱۲۷	حضرت عمرو بن الجموحؓ	۹۷	حضرت عمیر بن وہبؓ
۱۲۹	حضرت خلاد بن عمروؓ	۱۰۱	جنگ بدر کے چودہ شہیدؓ
۱۳۱	حضرت خدیثمہؓ		معرکہ بدر کے دو کھنس مجاہد
۱۳۲	حضرت عمرو بن ثابتؓ	۱۰۹	{ معاویہؓ و معاویہؓ
۱۳۳	حضرت وحشی بن حربؓ	۱۱۱	غزوہ احد کے چند جانثار
۱۳۶	حضرت حکیم بن حزامؓ	۱۱۳	{ کھنس رافع بن خدیجؓ
۱۳۷	حضرت ابولبابہ بن عبد المنذرؓ		{ سمرة بن جندبؓ
۱۴۰	بیعت رضوان کے وفادار	۱۱۴	حضرت ابو ذر جانیؓ
۱۴۳	حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ	۱۱۶	سیدنا حمزہؓ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۶۶	سیدہ امّ سلیمؓ	۱۴۸	چار مومنات صادقات
۱۶۸	حضرت عکاشہ بن محصنؓ	۱۵۱	چار معذور و فسادار
۱۶۰	حضرت ماعز بن مالکؓ	۱۵۲	اخلاقی کی بلند کرداری
۱۶۵	غایہؓ کی توبہ	۱۵۶	حضرت عبداللہ بن عمروؓ
۱۶۸	مسجد قبا (مدینہ منورہ) کے امامؓ	۱۵۷	حضرت ابو طلحہ انصاریؓ
۱۶۹	حضرت عقبہ بن نافعؓ	۱۵۹	حضرت ابو ہریرہؓ
۱۸۰	حضرت حسان بن ثابتؓ	۱۶۱	حضرت ابو الدرداءؓ
۱۸۱	حضرت عرابض بن ساریہؓ	۱۶۲	اصحاب القصفہ
۱۸۳	حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ	۱۶۳	حضرت مصعب بن عمیرؓ
	❖ ❖ ❖	۱۶۵	حضرت ابو الہیثم انصاریؓ

## دِیَاچَہ

### اصحابِ رسولؐ قرآن حکیم کے آئینہ میں

(۱) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. الخ الآية (سورہ توبہ آیت ۱۰۱)

ترجمہ:- اور جو مہاجرین و انصار (ایمان لانے میں) سابق و مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کیساتھ (ایمان لانے میں) ان دونوں طبقوں کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باع تیسار کر رکھے ہیں جنکے نیچے ہر یں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہینگے، یہ عظیم کامیابی ہے۔

مذکورہ آیت میں اصحابِ رسولؐ کے تین طبقات بیان کئے گئے ہیں مہاجرین انصار، ان دونوں کی پیٹروی کرنوالے (تابعین کرام)۔

مہاجرین وہ اصحابِ رسولؐ ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ اصحابِ مراد ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں بھرپور ٹھکانہ دیا۔

پیٹروی کرنوالے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کی تقلید کی اور انکے نقش قدم پر چلے۔



اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقے کے مسلمانوں کو واضح طور پر اپنی سندِ خوشنودی عطا کی اور انہیں جنت کی بشارت دی اور انکی اس سعادت کو ”الْفُؤزُ الْعَظِيمُ“ باعظمت کامیابی قرار دیا ہے۔

(۲) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَالنُّهْيِ وَأُولَئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولَئِكَ يُخْفَى لَهُمُ النُّجُومُ (سورۃ فتح آیت ۲۹)

ترجمہ :- محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ انکے ساتھ ہیں وہ کافروں (دشمنوں) کے مقابلہ میں بھاری ہیں اور خود آپس میں نہایت مہربان نرم خو ہیں۔ تم انکو رکوع سجدہ (نماز) کی حالت میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل و کرم اور اسکی خوشنودی کو طلب کرتے ہونگے۔ انکے یہ آثار (رکوع سجود کی حالت) انکے چہروں سے عیاں ہوتی ہے۔ انکی ہی علامات کتاب تورات اور کتاب انجیل (سابقہ آسمانی کتابوں) میں موجود ہے۔

تمام مفسرین نے وَالَّذِينَ مَعَهُ کے معنی عام بیان کئے ہیں یعنی مہاجرین و انصار کی پوری جماعت مراد ہے جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ان حضرات کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر بیان کی جاتی ہے۔ حَجَّةُ الرِّدَاعِ میں ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر

ایک دفعہ امام مالک کی مجلس میں چند لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض اصحاب رسول کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ امام مالک نے مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کی اور فرمایا: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ سے مراد منافق لوگ ہیں یعنی جس شخص کے دل میں اصحاب رسول سے بغض و عناد ہو وہ اس آیت کی زد میں آجاتا ہے وہ کافروں جیسے دل والا ہے۔ نیز امام ابن کثیر اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔  
”جو لوگ اصحاب رسول سے یا ان میں سے بعض کے ساتھ بغض و عناد

رکھتے ہیں اور ان کو بُرا بھلا کہتے ہیں ان کو ایمان بالقرآن سے کوئی واسطہ نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب سے راضی اور خوش ہونے کا اعلان فرما دیا ہو۔

علامہ ابن عبدالبر نے بھی اپنی کتاب مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔

”اللہ جن حضرات سے راضی ہو گیا پھر ان سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔“

یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ نبی کریم کی زندگی میں تو اصحاب رسول اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندے تھے وفات نبوی کے بعد اللہ ان حضرات سے ناراض ہو گیا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

(۳) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْخ  
(سورۃ الفتح آیت ۱۷-۱۸)

ترجمہ :- اللہ ان مومنین (اصحاب رسول) سے خوش ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے (جہاد پر ثبات قدم رہنے کی) بیعت کر رہے تھے پھر ان کے قلوب میں جو کچھ (بھی اخلاص تھا) اللہ کو وہ بھی معلوم تھا سو اللہ نے ان کے قلوب میں اطمینان اور مضبوطی پیدا کر دی، اسکے علاوہ ان کو ایک عظیم فتح کی خوشخبری دی (مُراد شہر خیبر اور اسکے مال و متاع ملنے کی بشارت)۔

یہ بیعت جس کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے اس کو ”بیعت رضوان“ کہا جاتا ہے جو ۶ھ مقام حدیبیہ میں پیش آئی تھی۔ اس بیعت میں چودہ سو اصحاب رسول شریک تھے۔ ایسے بے قوت اور اسباب سے خالی حالت میں اللہ کے دین کیلئے مرنے مارنے کیلئے تیار ہو جانا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ اصحاب اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور اپنے رسول کی وفاداری میں درجہ کمال پر فائز تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا:  
 أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ (الحدیث) تم لوگ روئے زمین کے تمام انسانوں سے  
 بہتر ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا: "ان میں کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ (الحدیث)  
 (۳) وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانٌ وَنَزَّيْنَا فِي قُلُوبِكُمْ. الخ. الآیة  
 (سورۃ الحجرات آیت ۷)

ترجمہ :- پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی اور اس کو پسندیدہ کر دیا  
 تمہارے قلوب میں اور نفرت ڈال دی تمہارے قلوب میں کفر اور گناہوں کی اور نافرمانیوں  
 کی، یہی لوگ ہدایت یافتہ (صراط مستقیم) پر ہیں۔ یہ ان پر اللہ کا فضل و احسان ہے  
 اور اللہ بانہر حکمت والا ہے۔

ایسی واضح ہدایت کے بعد اصحاب رسول کی دیانت و امانت و صداقت میں  
 کیا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ کیسے بے نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی ان  
 واضح آیات سے آنکھیں بند کر لیں اور اصحاب رسول کے ان ہدایت یافتہ،  
 نجات یافتہ افراد کو منافق کہہ دیا۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

اصحاب رسول کے اس قرآنی تعارف کے بعد کسی اور وضاحت کی ضرورت  
 نہ رہی تاہم احادیث نبوی سے بھی کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے جو قرآن ہی کی  
 تشریحی حیثیت رکھتا ہے۔ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

## اصحاب رسول احادیث صحیحہ کی روشنی میں

قرآن حکیم کے بعد احادیث رسول میں اصحاب رسول کا تذکرہ بھی اتنی  
 کثرت سے ملتا ہے جس کے احاطہ کیلئے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔

اہل علم نے یہ خدمت بھی انجام دی ہے۔ زیر نظر کتاب میں ان سب احادیث کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ احادیث جمع کی گئیں ہیں جنکی صحت و سند میں سارے محدثین کا اتفاق ہے۔ کتاب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے:

خَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنِي تَحْتَ الَّذِينَ يَلُؤُنَهُمْ تَحْتَ الَّذِينَ يَلُؤُونَهُمْ (الحدیث)

ترجمہ :- تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے اس کے بعد اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جو اس کے متصل ہے پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں۔

قرنی سے مراد نبی کا زمانہ خود اصحاب نبی کا زمانہ بھی ہے جس کو آپ نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ اس زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہی ہیں۔ اس لحاظ سے اصحاب رسول کا زمانہ بھی سارے زمانوں سے بہتر و اعلیٰ ہوا۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: ”میرے اصحاب کو بُرا نہ کہو وہ ایسے لوگ ہیں اگر تم میں سے کوئی بھی اُحد پہاڑ کے برابر سونا راہِ خدا میں خرچ کر دے تو وہ ان اصحاب کے ایک مدّ (نصف کلو) کے برابر نہ ہو سکے گا۔“ (الحدیث)

آپ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا:

اللہ نے میرے اصحاب کو سارے جہاں میں سے پسند کیا ہے پھر ان میں چار اصحاب کو خصوصی طور پر پسند کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، (رواہ البزار بسند صحیح)

اور یہ حدیث بھی تو مشہور و معروف ہے:

اللَّهُ أَنَدَى فِي أَصْحَابِي لَأَتَّخِذُوْا هُمْ عَرَضًا مِّنْ بَعْدِي. (جمع الفوائد)

ترجمہ :- میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انکو نشانہ ملائمت نہ بناؤ، جو شخص ان سے محبت کیا تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے

بعض رکھا تو میرے بغض کیساتھ اُن سے بعض رکھا اور جس نے اُنکو ایذا دی اُس نے مجھکو ایذا دی اور جس نے مجھکو ایذا دی اُس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔

سیدنا عمر بن الخطابؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد نقل کیا ہے۔

آپؐ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنے بعد ہونے والے اختلافات کے بارے میں دریافت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی۔

اے محمدؐ آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسرے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں۔

پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا: جب صحابہؓ کسی بات میں مختلف ہو جائیں تو آدمی اُن میں سے کسی بھی صحابی کی رائے پر عمل کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ (رزین جمع الفوائد ج ۲ ص ۲)

اس جیسی ایک اور روایت حضرت عرابض بن ساریہؓ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے پھر ایسا پُر اثر و عظیم بیان فرمایا کہ ہم سب کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپؐ کا یہ وعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کوئی طویں سفر پر جاتے وقت اپنے گھر والوں سے بطور آخری کلام کیا کرتا ہے۔

براہ کرام ہمیں مختصر طور پر کچھ جامع نصیحت فرمادیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمکو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے امیر کی اطاعت لازم کر لو اگرچہ وہ معمولی شخصیت (جہشی) ہو۔ کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا تو ایسے وقت میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اُسے مضبوطی سے تھام لینا۔ اور اسکو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور نئی نئی باتوں (بدعتوں) سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اصحاب رسول میں حضرت حذیفہ صاحبِ بہتر رسول اللہ (رسول اللہ کے رازداں) کے لقب سے ممتاز تھے فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا معلوم نہیں۔

پھر آپ نے سیدنا ابوبکرؓ و سیدنا عمرؓ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ان دونوں کی اقتدار (پیروی) کرنا اور عمار بن یاسرؓ کی سیرت اختیار کرنا اور عبد اللہ بن مسعودؓ جو بھی تعلیم دیں اسکی تصدیق کرنا۔ (ترمذی)

ان ہدایات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابدی پیغام جو اختلافِ امت کے وقت ابدی قانون و ضابطہ کے طور پر ارشاد فرمایا تحریر کیا جاتا ہے، ہمارا یہ ایقان ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور جامع فیصلہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔

حضرت عبد اللہ عمروؓ راوی ہیں فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حوادث بھی قوم بنی اسرائیل (یہود و نصاریٰ) پر آئے ہیں وہ میری اُمت پر بھی پیش آئیں گے جیسا کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر ہوا کرتے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کسی بے نصیب نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری اُمت کا ایک بے نصیب بھی یہ حرکت کر ڈالے گا، قوم بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئی میری اُمت تہمت سے فرقوں میں بٹ جائے گی، البتہ ایک طبقہ کے علاوہ باقی سب جہنم رسید ہوں گے۔

حاضرین میں بعض صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا؟

آپؐ نے ارشاد فرمایا: مَا أَنَا عَلَيْهِ إِذْ أَصْحَابِي (بخاری مسلم) وہ جو اُس راہ پر ہوں جس پر میں اور میرے اصحابؓ ہیں۔ ان ارشاداتِ عالیہ کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحابؓ کی راہ و ہدایت ہی حق و صداقت، نجات و سلامتی کا ذریعہ ہیں۔

## سیدنا صدیق اکبرؓ کی پہلی تقریر

سیدنا صدیق اکبرؓ کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبوی شریف میں خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد کی تھی۔

میں آپ حضرات پر حکمراں بنایا گیا حالانکہ میں آپ میں سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں، اُس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے

میں نے یہ منصب اپنی رغبت و خواہش سے نہیں لیا ہے۔  
 نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ منصب مجھے ملے، نہ میں  
 اللہ سے اس کے لئے دعا کی ہے نہ میرے دل میں کبھی اس کی خواہش پیدا  
 ہوئی ہے میں نے تو بادل نخواستہ اس لئے قبول کی ہے کہ مجھے مسلمانوں میں  
 فتنہ، اختلاف اور غرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔  
 میرے لئے اس منصب میں کوئی راحت و سکون نہیں بلکہ ایک  
 بارِ عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں  
 الا یہ کہ اللہ ہی میری مدد کرے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بجائے اور کوئی یہ  
 بار اٹھالے۔

اب بھی اگر آپ حضرات چاہیں تو اصحاب رسول میں سے کسی ایک کو  
 اس کام کے لئے پسند کریں میری بیعت آپ کی راہ میں حائل نہ ہوگی۔  
 آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے  
 اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ  
 لوگ رکھا کرتے تھے تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ شیطان سے  
 محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، فرشتے ان کی حفاظت  
 کیا کرتے تھے، وہ ہر نفسِ شمس سے محفوظ تھے۔

اب اگر میں ٹھیک کام کروں تو آپ میری مدد کریں اور غلط کام کروں  
 تو مجھے سیدھا کر دیں۔

تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ  
 اس کا حق اُسے دیو ادوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے



یہاں تک کہ اس سے حق وصول کر لوں۔

کسی قوم میں فواجش پھیل جائیں تو اللہ اس کو عام عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور رسول کا فرمانبردار ہوں، اگر میں اللہ و رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہوگی۔  
میں اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والا ہوں نئی راہ نکالنے والا نہیں۔  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

## سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا خطبہ

خلافت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

لوگو! کوئی حق والا اپنے حق میں اُس مرتبہ پر نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اُس کی اطاعت کی جائے۔

لوگو! میرے اوپر جو تمہارے حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں اس پر تم مجھ کو پکڑ سکتے ہو۔

مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج (حکومتی حق) یا اللہ کے عطا کردہ فے (عطا و بخشش) میں سے کوئی چیز وصول نہ کروں مگر قانون کے مطابق۔

اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ جو کچھ مال اسی طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ لوں مگر حق کے مطابق۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

## سیدنا عثمان بن عفان کا پہلا خطبہ

آپ نے بیعت خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، فرمایا:  
لوگو! سنو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں  
نئی راہ نکالنے والا نہیں۔

جان لو، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کے بعد تین باتیں  
ضروری ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔

ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے  
اور طریقے مقرر کئے تھے ان کی پیروی کروں گا۔

دوسرے یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے ان میں  
سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔

تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے خلاف  
کوئی کارروائی کرنا قانون شریعت کی رو سے واجب نہ ہو جائے۔

## سیدنا علی بن ابی طالب کا خطبہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیس بن ثابت کو ملک مصر کا گورنر مقرر کرنے کے بعد  
اہل مصر کے نام یہ خطبہ تحریر کیا ہے، لکھتے ہیں:

”خبردار ہو جاؤ! تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب

اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے

معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چسلائیں اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں اور تمہارے  
دور پردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں۔“

قرآن حکیم اور احادیث رسول کا یہ مجموعہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ  
اصحاب رسول ملتِ اسلامی کا نہیں بلکہ طبقہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کا  
کوئی مد مقابل اور ہمسر نہیں یہ حضرات ”خیر الناس“ سے یاد کئے جاتے ہیں  
اسی مقدس طبقہ کے سوا سے کچھ اوپر ”اصحاب رسول کی یادیں“ ان اوراق میں  
پیش کی گئی ہیں۔ فَيَهْدُوا لَهُمْ اَقْتَدِبُوا۔

وَالسَّلَامُ

خادم الكتاب والسنّة

عبد الرحمن غفرلہ

حال مقیم جدہ (سودی عرب)

## اصحاب الرسول ﷺ

### سیدنا ابو بکر صدیق رضی

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ما قبل بعثت شخصیات میں شمار ہوتے ہیں آپ کی ولادت ۳۳ عام الفیل مکہ المکرمہ میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو ڈھائی سال چھوٹے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آپ پہلے شخص ہیں اس لئے آپ کا لقب "اول المسلمین" قرار پایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو دو لقب ملے ہیں صدیق، عتیق۔

صدیق اس وقت کہا گیا جب اہل مکہ نے معراج شریف کا انکار کیا تھا ایسے وقت سیدنا ابو بکر نے واقعہ کی بلا تحقیق بر ملا تصدیق کر دی تھی۔

عتیق (آزاد شدہ) اس وقت کہا گیا جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کی بشارت دی۔

آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا جو فتح مکہ ۸ ہجری میں مسلمان ہو گئے اور اپنے صاحبزادے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی دیکھا پھر خلافت فاروقی میں انتقال کیا۔ رضی اللہ عنہ

سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے والد حضرت ابو بکرؓ اور والدہ سیدہ امّ رومان اس وقت دین اسلام قبول کر چکے تھے جبکہ میرا شعور بیدار نہ تھا (یعنی کم عمر تھیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے اور میرے والد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، کچھ عرصہ بعد مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم شروع ہو گیا تو میرے والد مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ ملک حبشہ ہجرت کر گئے تاکہ وہاں ایمان و اسلام پر قائم رہیں جب آپ مقام برک الغناد پہنچے وہاں کے سردار ابن الدغنے سے ملاقات ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا دوست تھا پوچھا ابو بکرؓ کہاں کا ارادہ ہے؟

کہا، ہماری قوم نے ہمیں شہر بدر کر دیا اور اللہ کی عبادت سے بھی منع کر دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں، اس لئے مکہ کی زمین سے ہجرت کر رہا ہوں۔

ابن الدغنے نے کہا بھلا یہ کیا بات ہوئی تم جیسے نیک و شریف انسان کو شہر بدر کر دیا جائے، تم تو عزیز و فقیر انسانوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہو، مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو، حق و سچائی میں مدد کرتے ہو، بھلا ایسا شخص شہر بدر ہو سکتا ہے؟

اے ابو بکرؓ تم اپنے وطن مکہ المکرمہ واپس چلو اور میری ضمانت اور کفالت میں اپنی زندگی بسر کرو تمکو اللہ کی عبادت کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پھر ابن الدغنے میرے والد ابو بکرؓ کے ساتھ مکہ المکرمہ آیا، قریشی سرداروں سے تفصیلی بات کی اور انھیں قائل معقول کر دیا کہ ابو بکرؓ جیسا نیک و شریف

آدمی شہر بدر نہیں کیا جاسکتا۔

اہل مکہ نے ابن الدغنے کی ضمانت و کفالت قبول کر لی اور حضرت ابو بکرؓ کو قیام کی اجازت دیدی البتہ قریش نے ابن الدغنے سے یہ طے کروالیا کہ ابو بکرؓ صرف اپنے مکان میں عبادت کریں گے، باہر انھیں اجازت نہیں دی جائے گی، ہمیں اپنے بچوں اور عورتوں کے دین و مذہب پر اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ابو بکرؓ کا ساتھ نہ دیدیں چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اپنے گھر میں اللہ کی بندگی کرتے رہے پھر چند دنوں بعد گھر کے صحن میں اپنی ایک مسجد بنالی اسمیں عبادت کا سلسلہ جاری رکھا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے والد ابو بکرؓ نہایت رقیق القلب انسان تھے جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو قدرتاً آواز بلند ہو جاتی اور پھر خشیت و بکا طاری ہو جاتا۔

سیدہ کے یہ الفاظ ہیں:

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ -

ترجمہ: ابو بکرؓ اللہ کے نام پر بکثرت رونے والے تھے، ان کے آنسو تم نہیں پاتے جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔

حضرت ابو بکرؓ کی یہ حالت مخفی نہ رہی، قریش کے چھوٹے بڑے اور عورتیں ہر روز یہ منظر دیکھ دیکھ کر متاثر ہونے لگے، قریش کے سرداروں کا وہ اندیشہ پورا ہونے لگا کہ کہیں بچے اور عورتیں اسلام قبول نہ کر لیں۔ انھوں نے حضرت ابو بکرؓ کے کفیل ابن الدغنے سے رابطہ کیا اور صورت حال بیان کی اور اصرار کیا کہ یا تو تم اپنی کفالت واپس لے لو یا ابو بکرؓ کو پابند کرو کہ وہ اندرون خانہ ہی اپنی عبادت جاری رکھیں اپنے صحن سے مسجد اٹھالیں۔

ابن الدغنے نے حضرت ابو بکرؓ سے نہایت دلسوزی میں کہا، ابو بکرؓ میں نے تمکو صرف اندرون خانہ عبادت کرنے کی ضمانت دی تھی لیکن تم نے اس کا پاس لحاظ نہیں رکھا، بہتر ہے میرے عہد کو پورا کرو یا پھر ضمانت واپس دیدو۔ اس مطالبہ پر حضرت ابو بکرؓ نے واضح طور پر کہہ دیا تم اپنا ذمہ واپس لے لو میں اپنے رب کی ضمانت میں آجاتا ہوں، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہی میں مقیم تھے، آپؐ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکرؓ تمہاری ہجرت گاہ مجھے بتلا دی گئی ہے جو کھجور کے درختوں سے پر ہے، وقت کا انتظار کرو، پھر بہت جلد میرے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔

(بخاری ج ۳ ص ۳۰۷ باب: فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

## سیدنا عمر بن الخطابؓ

ایک دن خاندان قریش کی چند عورتیں اپنے حقوق اور شوہروں کی شکایات بیان کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آئیں اس گفتگو میں ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضبط و تحمل سے ان کی یہ آوازیں برداشت کر رہے تھے۔

اچانک حضرت عمر الفاروقؓ اُگے اور حجرہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، حضرت عمرؓ کی آواز سن کر یہ سب عورتیں اُٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں آگئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو داخل ہونے کی اجازت دی۔

۱۴۲۶۳۲

سیدنا عمرؓ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، عرض کیا: اَضْحَكَكَ اللهُ بِسُنَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! اللہ آپ کو سدا خوش رکھے کیا بات ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمرؓ! ان خواتین کی حالت پر مجھ کو ہنسی آگئی یہ اپنے مطالبات اور اپنے شوہروں کی شکایات زور و شور سے کر رہی تھیں جب انہوں نے تمہاری آواز سنی فوری اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا تو آپ سے تھا میری کیا حیثیت ہے؟

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ان قریشی عورتوں سے خطاب کیا۔  
 ”اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والیو! تمہارا کیا حال ہے؟ تم مجھ سے ڈرتی ہو، تمکو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے؟“  
 قریشی عورتوں نے جواب دیا، ہاں! ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جیسے نہیں ہیں، تم تو صرف گرفت کرنا جانتے ہو۔ ہماری بات تم سے نہیں ہے۔  
 اس گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرؓ خاموش ہو جاؤ اللہ کی قسم جس راہ پر تم چلتے ہو شیطان اُس راہ سے دُور ہو جاتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۲)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -



## سیدنا عثمان بن عفان رضی:

احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ہم نے حج بیت اللہ کے لئے سفر کیا دورانِ سفر مدینہ منورہ میں قیام کیا ابھی ہم اپنا سامان سفر رکھنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک شخص نے یہ خبر دی کہ مسجد نبوی میں لوگوں کا اڑدھام ہو گیا ہے اس ہجوم میں سیدنا علی رضی، زبیر رضی، طلحہ رضی، سعد بن ابی وقاص رضی موجود ہیں، ہم جلدی سے وہاں پہنچے، دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی ایک چادر میں ملبوس ہجوم سے خطاب کر رہے ہیں۔

کیا اس ہجوم میں علی رضی ہیں؟ طلحہ رضی ہیں؟ زبیر رضی ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی ہیں؟

سب نے جواب دیا، جی ہاں، ہم سب موجود ہیں۔

سیدنا عثمان رضی کہنے لگے میں تمکو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ ابتداءً مسجد نبوی نماز پڑھنے والوں کیلئے تنگ ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو فلاں قبیلے کے جانوروں کا ٹھکانہ خرید لے اور اسکو مسجد کے احاطے میں شامل کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

میں نے اس زمین کو پینتیس ہزار درہم میں خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی خبر دی، آپ نے ارشاد فرمایا اس زمین کو ہماری مسجد میں شامل کر دو اور اے عثمان اسکا اجر تمہیں ملے گا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟

چاروں حضرات نے کہا، بالکل صحیح!

اس پر سیدنا عثمان رضی نے مجمع سے فرمایا، اور آج تم لوگ مجھ کو اس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟  
عام مجمع نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

پھر سیدنا عثمان رضی نے ان چاروں حضرات سے خطاب کیا، تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بَرَزُومَہ (کنواں) کے بارے میں اعلان فرمایا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کنویں کو خرید لے (اس وقت شہر میں پانی کی شدید قلت تھی) اللہ اُس کی مغفرت فرمادے گا، میں نے اُس کنویں کو ایک بھاری رقم میں خرید لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اس کنویں کو عام مسلمانوں پر وقف کر دو، اے عثمان رضی اس کا اجر تم کو ملے گا۔ کیا یہ واقعہ صحیح نہیں؟

ان چاروں اصحاب نے اعتراف کیا، بیشک ایسا ہوا ہے۔  
پھر مجمع سے خطاب کیا، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا پانی کیوں بند کر دیا ہے؟  
فسادیوں نے کہا، تم کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے۔  
پھر تیسری بار سیدنا عثمان رضی نے سوال کیا تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن جیشِ عُسْرَہ (غزوہ تبوک) کی تشکیل کی تھی اس وقت مجاہدین کے ہاتھ خوراک اور سواریوں اور جنگی سامان سے خالی تھے، ایسے پُر آشوب حالات میں آپ نے اعلان فرمایا تھا، ایسا کوئی ہے جو اس غزوہ کیلئے سامان فراہم کرے؟  
میں نے اُس لشکر کے لئے وہ سب کچھ فراہم کیا جسکی فوج کو ضرورت

پڑتی ہے، اس کے علاوہ تین سو اونٹ اور ایک ہزار دینار (اشرفی) آپ کی خدمت میں پیش کئے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے کہ دیناروں کو بار بار پلٹتے اور یہ فرماتے اس عمل کے بعد عثمانؓ کو کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا، اے اللہ! میں عثمانؓ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

پھر ان چاروں حضرات سے خطاب کیا تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا یہ عمل میں نے نہیں کیا؟

چاروں اصحاب نے اس کا بھی اعتراف کیا۔

پھر حضرت عثمانؓ نے کہا اے اللہ! آپ گواہ ہیں، اے اللہ! آپ گواہ ہیں۔

(ذرقانی ج ۲ ص ۶۴ نسائی شریف)

**ملفوظ:** سیدنا عثمانؓ کا یہ حادثہ آپ کی خلافت کے آخری دنوں کا ہے جبکہ منافقین کی سازشوں سے اہل عراق کی ایک بڑی تعداد مخالف ہو گئی تھی پھر انھوں نے سیدنا عثمانؓ کی خلافت چھین لینے کیلئے مدینہ منورہ پر ہتھ بول دیا، انھوں نے امیر المؤمنین سیدنا عثمانؓ کے مکان کا محاصرہ بھی کر لیا، سیدنا عثمانؓ اپنے مکان میں محصور ہو گئے باغیوں نے ضروریات زندگی حتیٰ کہ غذا و پانی بھی ایسے طور پر بند کر دیا کہ سیدنا عثمانؓ اور ان کے گھروالے بے بس ہو گئے۔

سیدنا عثمانؓ کا مذکورہ بالا خطاب ان چار اصحاب رسول سے اسی ضمن میں ہو رہا تھا جبکہ فسادوں کا دباؤ یہ چار سربراہ اور وہ حضرات اور اہل شہر بھی دور بھی نہ کر سکے آخر فسادوں نے مکان کی دیواریں پھاند کر بیت عثمان میں داخل ہو کر سیدنا عثمانؓ کو شہید کر ڈالا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

لے "سیرۃ سیدنا عثمانؓ" مطبوعہ دارالمنصفین اعظم گڑھ یو پی مطالعہ کیجئے۔

## سیدنا علی بن ابی طالب :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین دعوت پر جن حضرات نے اسلام قبول کیا انہیں ”سابقین اولین“ کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک مختصر تعداد ہے جن میں سے بعض کے نام تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ان میں سیدنا علیؓ بھی شامل ہیں لیکن علی الاطلاق سب سے پہلے جس ذات عالی کا نام ملتا ہے وہ سیدنا ابو بکرؓ ہیں اور طبقہ نسواں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ (اصابہ ج ۱ ص ۲۲)

امام ابو حنیفہؒ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تھا، فرمایا مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیقؓ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ، بچوں میں سیدنا علیؓ (اس وقت سیدنا علیؓ کی عمر دس سال تھی) غلاموں میں حضرت زید بن حارثہؓ (اپنے منہ بولے بیٹے) اولین سابقین ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۹)

سیدنا علیؓ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً ایک سال تک اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع نہ کی، اپنے اسلام کو مخفی رکھا، جب نماز کا وقت آتا تو قریبی گھاٹی میں جا کر نماز (اُس وقت جو بھی طریقہ تھا) ادا کر لیتے ایک دن ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، باپ ابو طالب نے دیکھ لیا پوچھا بیٹا یہ کیسی عبادت ہے؟ کونسا دین ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان یہ وہی دین ہے جو ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور یہ وہی عبادت ہے جو آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میں تو اپنا آبائی مذہب نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اپنے بیٹے علیؓ سے فرمایا، بیٹا تم کو اختیار ہے جو دین چاہو اختیار کر لو۔ چنانچہ سیدنا علیؓ

اسلام پر قائم رہے اور بعد میں "فاتح خیبر" کے لقب سے یاد کئے گئے۔  
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ  
واپس تشریف لائے چند ماہ بعد آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی، شہر خیبر پر جو مالدار  
یہودیوں کا شہر تھا حملہ کیا جائے، خیبر بلند و مضبوط قلعوں کا شہر تھا اس میں  
کئی ایک قلعے تھے جو یہودیوں کی پناہ گاہیں سمجھی جاتی تھیں۔

آپ نے ماہ محرم ۶ھ میں خیبر کا محاصرہ کیا کئی ایک قلعے فتح کئے انہیں  
سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ قموص نامی تھا اس کو فتح کرنے کے لئے سیدنا  
ابو بکر صدیقؓ کو روانہ کیا گیا باوجود یہ پوری جدوجہد یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، دوسرے  
دن سیدنا عمر الفاروقؓ کو روانہ کیا انھوں نے بھی پوری کوشش کی لیکن بغیر  
کسی کامیابی کے واپس آ گئے۔

اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کل ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو  
اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول بھی اُس سے محبت رکھتے ہیں  
اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا، فوج میں ہر شخص تمنا کرنے لگا کہ یہ سعادت مجھ کو ملے  
ساری رات اسی تمنا و اشتیاق میں گزر گئی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے حضرت  
علیؓ کو طلب فرمایا اس وقت حضرت علیؓ کی آنکھیں پُر آشوب تھیں آپ نے اپنا  
لُعاب دہن ان کی آنکھ میں بطور سُرمہ لگایا اور دُعادی، آنکھ اُسی وقت صحت مند  
ہو گئی، سیدنا علیؓ فرماتے ہیں پھر تاحیات یہ شکایت پیدا نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ  
آپ نے جنگی نشان حضرت علیؓ کو عنایت فرمایا اور چند ضروری ہدایات  
دیکر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔

مقابلہ میں خیبر کا مشہور و نامور پہلو ان مَرْحَب نامی یہ شعر

پڑھتے آگے بڑھا:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْبَرَ أُنْفِ مَرْحَبٍ شَاكِي السِّلَاحِ بَطْلٌ مُّجَرَّبٌ  
شہر خیبر کو خوب معلوم ہے میں مرحب ہوں سلاح پوش بہادر تجربہ کار

سیدنا علیؑ نے بھی اس کے جواب میں یہ شعر کہا:

أَنَا الَّذِي سَمَّنِي أُمِّي حَيْدَرَخَ كَلَيْتِ غَابَاتِ كَرِيماً الْمَنْظَرِخَ  
میں ہی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر (شیر) رکھا جنگل کے خوفناک خطرناک شیر کی طرح

یہ کہہ کر نہایت پھرتی سے اُس زور سے تلوار ماری کہ مرحب کا سر دو ٹکڑے ہو گیا، مضبوط قلعے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے پناہ دینے والا قلعہ بے سہارا بن گیا، پناہ گزین بھاگ پڑے۔

اس طرح یہ آخری قلعہ بیسٹ یوم کے محاصرے کے بعد سیدنا علیؑ کی قیادت میں فتح ہو گیا، اسی لئے سیدنا علیؑ کو فارح خیبر کہا جاتا ہے۔ **فِدَيْتِ الْحَمْدُ**  
(فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۷)

## اسلام کا پہلا جہاد، پہلا مجاہدہ:

ہجرت کے بعد لہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حضرت عبیدہ بن الحارثؓ کی ماتحتی میں ایک فوجی دستہ شہر رابغ (قریب جدہ سعودی عرب) روانہ کیا، یہ اسلام کا پہلا فوجی دستہ تھا، شہر رابغ کے کفار سے مقابلہ ہوا۔

مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر پھینکنے والے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تھے۔ آخر یہ شہر بھی اسلام کے ماتحت آ گیا۔

(فضائل نبویؐ ص ۲۹۵، از شیخ الحدیث زکریا)

## سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی

سیدنا عمر الفاروقؓ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو دمشق (شام) کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہؓ ان دنوں اصحاب رسول میں شامل ہیں جنکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ

کچھ عرصہ بعد سیدنا عمرؓ نے ملک شام کا سفر کیا، حضرت ابو عبیدہؓ استقبال کے لئے شہر کے آخری کنارے تشریف لائے اور امیر المؤمنین کو اپنے ساتھ لیکر شہر میں داخل ہوئے۔

سیدنا عمرؓ نے فرمایا، ابو عبیدہؓ تم مجھ کو اپنے گھر لے چلو پھر جہاں کہیں جانا ہو گا چلیں گے، حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کیا، امیر المؤمنین میرے گھر سوائے رونے کے اور کچھ نہ ہو گا۔  
فرمایا، نہیں! نہیں! پہلے آپ کے ہی گھر جانا ہے۔

چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہؓ کے گھر (گورنر ہاؤس) پہنچے، سیدنا عمر الفاروقؓ کی آنکھیں بھرائیں، دیکھا حضرت ابو عبیدہؓ کے گھر میں سوائے ایک بوری (ٹاٹ) ایک لوٹا، ایک مشکیزہ اور کچھ نہ تھا۔ سیدنا عمر الفاروقؓ بے ساختہ رو پڑے اور یہ عظیم کلمات کہے جو تاریخ اسلام میں زبرد وقناعت کے بلند مینار سمجھے گئے ہیں۔

غَيْرَ مَنَّا الدُّنْيَا كُنَّا إِلَّا آبَا عَبِيدَةَ

دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا سوائے ابو عبیدہؓ کے۔

پھر ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا:

أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ

اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ رضی ہے۔

اسے ابو عبیدہ رضی نے امانت کا حق ادا کر دیا (گورنری اور خاکساری)۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

## حضرت ابو جحیفہ رضی:

یہ صحابی رسول ہیں حیات نبوی کے آخری دور میں مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے، سیدنا علی رضی کے دورِ خلافت میں ان کے خصوصی خادموں میں شمار ہوئے۔

اپنا ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں:

ایک دن میں نے کچھ پُرتکلف کھانا (گوشت روٹی وغیرہ) پیٹ بھر کھالیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہوا اور آپ کے قریب بیٹھ گیا، اس وقت مجھے بار بار ڈکاریں آ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار مرتبہ تو تمٹل فرمایا، پھر ارشاد فرمایا۔

ابو جحیفہ رضی! اپنی ڈکاروں سے، ہمیں ایذا نہ دو اور یاد رکھو جو لوگ دنیا میں اپنا پیٹ بھر رکھتے تھے وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ (المحدث)

راوی حدیث کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد ابو جحیفہ رضی نے تاحیات پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی، اگر صبح کھاتے تو رات کا کھانا ترک کر دیتے اسی طرح رات کا کھانا کھاتے تو صبح کا نہیں کھاتے۔

ابن ابی الدنیا کی روایت میں خود حضرت ابو جحیفہ رضی کا قول نقل کیا گیا



ہے کہتے ہیں: اس واقعہ کے بعد میں نے کامل تیس سال کسی دن بھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ (مختصر الترغیب والترہیب ص ۱۶۱ ابن حجر)

**ملحوظہ :-**

ارشاد نبوی، دُنیا کے پیٹ بھرے آخرت میں زیادہ بھوکے رہیں گے (الحديث) صرف پیٹ بھر کھانا مراد نہیں ہے بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا عیش کرنا تھا ایسے لوگ آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں گے۔ (یعنی محتاج تر)۔ **وَاللَّهُ اعْلَم**

**ایک غیر معروف صحابی :-**

ایک صاحب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے پھر اس طرح کہنا شروع کیا:

یا رسول اللہ! میرے چند غلام ہیں جو پرلے درجے کے جھوٹے، خیانت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، میں ان کو بُرا بھلا کہتا ہوں اور مارا بھی کرتا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتے، ارشاد فرمائیے میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟

آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا خیانت کرنا، نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا اور تمہارا ان کو سزا دینا ان کے جرم و خطا کے برابر ہے تو معاملہ برابر ہو گیا نہ تم کو نفع نہ نقصان۔

اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہے تو آخرت میں تم سے اسکا بدلہ لیا جائے گا۔

راوی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ فیصلہ سنکر وہ شخص مجلس سے اٹھا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں روتا بیٹھ گیا، اسکی ہچکیاں بندھ گئیں۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ الْآيَةَ

(سورۃ انبیاء آیت ۷۷)

ترجمہ :- اور قیامت کے دن ہم میزانِ عدل قائم کریں گے سو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اگر کسی کا ظلم رائی کے دانہ برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

پھر وہ شخص اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے اور ان کے لئے یہی بہتر ہے کہ میں انھیں آزاد کر دوں، یا رسول اللہ! آپ گواہ رہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۵)

**ملکِ مظلوم :-** یہ ذہن نشین رہے کہ عہدِ قدیم میں غلام اور باندی مال و دولت میں قیمتی اثاثہ شمار کئے جاتے تھے ایسا شخص امیر انسان سمجھا جاتا تھا جس کے پاس لونڈی غلام ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے ایک شخص نے اپنی تنگیِ معاش کی شکایت کی آپ نے پوچھا کیا تیرے یہاں مکان ہے جسمیں تو بسیرا کرتا ہو؟ کہا ہاں! ایک مکان ہے۔ پھر پوچھا کیا تیری بیوی ہے جو تیرے گھریلو امور انجام دیتی ہو؟ کہا ہاں! میری ایک بیوی بھی ہے۔ فرمایا دنیا تجھ کو نصیب ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا میرا ایک غلام بھی ہے جو بیرونی خدمت انجام دیتا ہے۔ فرمایا، پھر تو تم امیر آدمی ہو۔ (تمہاری تنگدستی کی شکایت صحیح نہیں)۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## حضرت انس بن النضر رضی:

حضرت انس بن النضر رضی ان چند ایک لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام کے پہلے معرکہ غزوہ بدر ۲ھ میں شریک نہ ہو سکے (غزوہ بدر اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا)۔ انھیں اس کا شدید افسوس تھا کہ اسلام کے پہلے عظیم معرکہ میں شرکت سے محروم رہا وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اسلام کے اُس پہلے جہاد میں شریک نہ ہو سکا جس میں آپ نے مشرکین مکہ سے قتال کیا ہے یا رسول اللہ! آئندہ ایسا کوئی موقع پیش آئے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کس بے جگری اور جانثاری سے ایسے معرکہ میں شرکت کروں گا۔

راوی حضرت انس بن مالک رضی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے ہی سال ۳ھ میں جنگ احد کا معرکہ پیش آیا میرے چچا حضرت انس بن النضر رضی نے پورے ذوق و شوق اور کمال اخلاص سے اس معرکہ میں شرکت کی۔

اس معرکہ میں آغاز کے بعد ہی مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہو گئی تھی اور مشرکین بھاگنے لگے۔ مسلمان کافروں کا مال و اسلحہ جمع کرنے لگے تھے کہ اچانک میدان کارزار مسلمانوں کے ہاتھوں چھوٹ جانے لگا۔ مشرکوں کی ایک اچانک اور غیر متوقع یلغار نے مسلم شکر میں انتشار پیدا کر دیا۔ اس افراتفری کی حالت میں مسلمان اپنے مرکز سے جدا ہو گئے۔ (تفصیل غزوہ احد، کتاب ہدایت کے چراغ، جلد ۲، ۵۳۶ پر مطالعہ کیجئے)۔

حضرت انس بن النضر رضی نے اس ناگہانی صورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا



کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ترجمہ :- ان ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے پھر بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور دیگر بعض منتظر ہیں، اور انھوں نے ذرا بھی تبدیلی نہ کی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن النضر کے بارے میں فرمایا:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّكَ - (بخاری ج ۱ ص ۳۹۳)

ترجمہ :- اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ کسی بات کو طے کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ (اُن میں انس بن النضر بھی شامل ہیں)۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

### حضرت زید بن وثاب رضی اللہ عنہ

ماہ صفر ۳ھ کا واقعہ ہے قبیلہ غنصل اور قبیلہ قارہ کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور آپ کو یہ خوشخبری دی کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، براہ کرم آپ چند حضرات کو ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیں۔

اس گزارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے چند خصوصی حضرات کو جو سب قرآن کے عالم تھے ان کے ہمراہ کر دیا اور ان میں حضرت عاصم بن ثابتؓ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

جب یہ قافلہ مقام رجب پر پہنچا جو مکہ المکرمہ اور عسفان کے درمیان تھا، ان غداروں نے اُن دنوں اصحاب رسولؐ سے غداری کی اور اپنے دوست قبیلہ

بنو لیمان جسکو انھوں نے پہلے سے تیار رکھا تھا اشارہ کر دیا، ان کی تعداد دو سو تھی ان میں سو تیسرا انداز بھی تھے یہ سب ڈاکو ان دس اصحاب پر ٹوٹ پڑے حضرت عاصم بن ثابتؓ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بڑے ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنے اپنے تیر سنبھال کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔

ان دو سو بزدلوں کی جماعت بار بیٹھی، ان کے سردار نے دھوکہ و فریب سے کام لیا، حضرت عاصم بن ثابتؓ سے کہا نیچے اتر آؤ تم سب کو پناہ دے دی جائے گی، حضرت عاصمؓ نے بلند آواز سے کہا، میں کافر کی پناہ میں کبھی نہ آیا اور نہ آؤں گا۔

پھر یہ دعویٰ کیا کہ اللہم اخبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ۔ اے اللہ! اپنے رسولؐ کو ہمارے حال کی خبر دے۔ (بخاری)

ابوداؤد طیالسی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مدینہ منورہ میں صحابہ کو اطلاع دی کہ عاصم بن ثابتؓ اور ان کے دس ساتھی کافروں کے زرعے میں پھنس گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ

آخر کار ان دس اصحاب نے ان دو سو غداروں سے مقابلہ کیا اس معرکہ میں حضرت عاصم بن ثابتؓ سمیت سات صحابہ شہید ہو گئے باقی تین حضرات عبد اللہ بن طارقؓ، زید بن دثنہؓ، خبیب بن عدیؓ رہ گئے، غداروں نے انہیں بھی امان کی پیشکش کی یہ حضرات نیچے اتر آئے، اترتے ہی تینوں کو زنجیروں سے کس دیا گیا اور ساتھ چلنے کے لئے مجبور کیا۔

حضرت عبد اللہ بن طارقؓ نے مزاحمت کی تو انہیں شہید کر دیا گیا، باقی دو حضرات کو مکہ المکرمہ لے جا کر مشرکین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت زید بن دثنہؓ کو صفوان بن امیہ مشرک نے خرید لیا تاکہ اپنے باپ

امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کرے کیونکہ حضرت زید بن دثنہ نے غزوہ بدر میں صفوان کے باپ امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔

حضرت خبیب بن عدیؓ کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدتا کہ اپنے باپ کا بدلہ لیں، حضرت خبیبؓ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو جہنم رسید کیا تھا۔

بہر حال حضرت زید بن دثنہ کو قتل کرنے کے لئے حرم شریف سے باہر مقام تنعیم لے جایا گیا اس وقت یہ منظر دیکھنے والوں میں قریش کا سردار ابوسفیان بھی (جو اس وقت کافر تھا) موجود تھا، ابوسفیان نے حضرت زید بن دثنہ سے پوچھا تم سچ بتاؤ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بجائے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا جائے کیا تم اس کو اختیار کر لو گے؟

حضرت زید بن دثنہ نے جھنجھلا کر ہلوری قوت سے جواب دیا۔

”اللہ کی قسم! مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں معمولی سا کانٹا چھبے اور میں سکون پاؤں۔“

ابوسفیان حضرت زید بن دثنہ کی محبت و عقیدت پر دنگ رہ گیا، کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم! میں نے ایسا جاں نثار و فدا کار کسی کو نہ دیکھا۔ آخر کار حضرت زید بن دثنہ کو مقام تنعیم مکہ المکرمہ میں شہید کر دیا گیا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. الْآيَةُ انْهَوْنَ فِي ابْنِي مُرَادٍ بَالِي.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

## حضرت خُبیب بن عدیؓ :-

حضرت زید بن دثنہؓ کے تذکرے میں حضرت خُبیب بن عدیؓ کا ذکر آچکا ہے ان کو مشہور مشرک سردار حارث بن عامر کے بیٹوں نے اپنے باپ حارث کے بدلے میں قتل کرنے کے لئے خرید لیا تھا کیونکہ حضرت خُبیبؓ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو جہنم رسید کیا تھا۔

حضرت خُبیبؓ چند دنوں حارث بن عامر کے گھر قید رہے آخر ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا۔

حضرت خُبیبؓ کو جب یہ معلوم ہوا تو حارث کی بیٹی زینب سے (جو بعد میں مسلمان ہو گئی) اپنے بال ناخن وغیرہ تراشنے کے لئے اُسترہ طلب کیا (تاکہ حضور رب میں حاضری سے پہلے ظاہری طہارت و صفائی سے فارغ ہو جائیں) حارث کی بیٹی زینب نے انھیں اُسترہ دے دیا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی، کچھ دیر بعد زینب نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ حضرت خُبیبؓ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور اُسترہ حضرت خُبیبؓ کے ہاتھ میں ہے، اس حالت پر زینب کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی ہائے میرا بیٹا!

حضرت خُبیبؓ نے نہایت وقار و تحمل سے فرمایا، زینب کیا تجھے اندیشہ ہے کہ میں تیرے بچے کو قتل کر دوں گا؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہو گا۔ ہم مسلمان غداری نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ

زینب کو اطمینان ہو گیا حضرت خُبیبؓ نے بچے کو واپس کر دیا۔

زینب مسلمان ہو جانے کے بعد خود کہا کرتی تھیں۔

”میں نے کوئی قیدی خُبیبؓ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، انھوں نے



میرے بچے کو میرے حوالہ کر دیا علاوہ انہوں نے اپنے گھر میں ان کو حالتِ قید میں جبکہ وہ زنجیروں سے کسے ہوئے تھے تازہ تازہ انگور کے خوشے کھاتے بار بار دیکھا ہے حالانکہ ان دنوں مکہ المکرمہ میں پھل پھول کا نام و نشان بھی نہ تھا، ہر روز یہ تازہ تازہ رزق ان کو غیب سے مل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر

بہر حال مشرک سردار حارث بن عامر کے بیٹے اپنے باپ کے انتقام میں حضرت خبیثؓ کو قتل کرنے کے لئے حرم شریف سے باہر مقام تنعیم لے گئے حضرت خبیثؓ نے ان ظالموں سے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو؟ ظالموں نے اجازت دیدی۔

حضرت خبیثؓ نے دو رکعت اختصار سے پڑھ کر ظالموں سے یہ فرمایا: ”میں نے اپنی نماز کو طویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہو گا میں نے موت سے ڈر کر ایسا کیا ہے۔“ پھر دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فریاد کی،

اللَّهُمَّ احْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تَبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا۔  
ترجمہ :- اے اللہ! انہیں اپنے احاطہ عذاب میں لے لے، اور انہیں ایک ایک کر کے مار، ان میں کسی کو بھی نہ چھوڑے۔

پھر یہ دو شعر پڑھے:

لَسْتُ أَبَالِي حَيْثُ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ۖ عَلَىٰ آيٍ شَقِيٍّ كَانَ يَلِدِي مَصْرَعِي  
ترجمہ :- مجھ کو پروا نہیں جبکہ میں حالتِ اسلام میں مارا جاؤں، خواہ کسی بھی کروٹ پر جان دوں جبکہ میرا مرنے والا اللہ کے لئے ہے۔

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْآلِهَةِ وَإِنْ شَاءَ ۖ يَبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوِ مَمْرَعِ

ترجمہ :- اور یہ صرف اللہ کے لئے ہے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے پارہ پارہ کئے جوڑوں پر برکت نازل فرمائے۔

ادھر حضرت خبیثؓ کی مناجات ختم ہوئی، تختِ دار تیار تھا، سولی دے دی گئی، حضرت خبیثؓ نے جامِ شہادت نوش کر لیا۔

فَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔

**ملفوظہ :-** حضرت خبیث بن عدیؓ نے اپنے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر کے قیامت تک یہ سنت قائم کر دی کہ شہید ہونے والوں کو اپنی سولی یا قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ (زرقانی ج ۲ ص ۶۸)

کتب تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت خبیثؓ کی لاش یکماہ سے زائد عرصہ سولی پر ہی رہی اور تروتازہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حضرت زبیر بن العوامؓ اور حضرت مقدادؓ کو ان کی لاش اُتار لانے کیلئے مکہ المکرمہ روانہ کیا، یہ دونوں رات دن چلتے چلتے مکہ المکرمہ مقام تنعیم پہنچے، رات کا وقت تھا حضرت خبیثؓ کی لاش کے اطراف کئی ایک آدمی حفاظت میں پڑے ہوئے تھے اللہ نے ان پر غفلت و نیند کا پردہ ڈال دیا۔

حضرت زبیرؓ و حضرت مقدادؓ نے لاش کو سولی سے اُتارا اپنے گھوڑے پر رکھا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔

کچھ دیر بعد ان غافلوں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ لاش موجود نہیں، تیزی سے جو طرف دوڑ پڑے کچھ دور جا پکڑا، حضرت زبیرؓ نے لاش کو زمین پر رکھ دیا، زمین اُسی لمحہ بھٹی اور لاش کو نیکل گئی۔ لا الہ الا اللہ اسی بنا پر حضرت خبیث بن عدیؓ کو ”بَلْبُجُ الْأَرْضِ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ (زمین کا پاکیزہ لقمہ)۔

بالآخر حضرت زبیرؓ اور حضرت مقدادؓ ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے  
مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۶۷)

## حضرت زید بن حارثہؓ اور سیدہ اُم ایمنؓ :-

نوعمر زید بن حارثہؓ کا عرب کے معزز قبیلہ بنو کلب سے تعلق تھا، ایک  
حادثے میں ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ لیا تھا پھر طائف کے بازار عکاظ میں انہیں  
فروخت بھی کر دیا جیسا کہ اُس زمانے کا رواج تھا۔

یہ اپنی عمر کے آٹھویں سال میں تھے مکہ المکرمہ کی معزز خاتون سیدہ  
خدیجہ الکبریٰ نے انہیں اپنی گھریلو خدمات کے لئے خرید لیا اور جب سیدہ  
خدیجہ الکبریٰ نے اپنا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا تو سیدہ نے  
زید بن حارثہؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیلئے وقف کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوعمر زید بن حارثہؓ کے عادات و اطوار بہت  
پسند آئے، آپ نے انہیں اپنا منٹھ بولا بیٹا قرار دے لیا، جیسا کہ اُس  
زمانے میں راج تھا۔

جب زید بن حارثہؓ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی  
خدمت و نگرانی کرنے والی خاتون سیدہ اُم ایمن سے زید بن حارثہؓ کا نکاح کر دیا۔  
یہ اُم ایمنؓ وہی مقدس خاتون ہیں جن کا ایک خصوصی واقعہ کتب تاریخ میں  
نقل ہوتا آرہا ہے۔

یہ ایک مرتبہ سفر کر رہی تھیں، منزل بہت دور تھی موسم شدید گرم، افطار کا  
وقت آ گیا پانی ساتھ نہ تھا پیاس نے بیقرار کر دیا، اس ناگہانی صورت میں سیدہ  
اُم ایمن نے اپنے رب کو پکارا، کچھ ہی دیر نہ لگی آسمان سے پانی بھرا ڈول

اُترتا نظر آیا جو سفید رسی سے باندھا ہوا تھا، سیدہ اُمّ ایمنؓ نے اسے اٹھالیا اور افطار کر لیا پھر وہ ڈول جس راستہ سے آیا ویسے ہی چلا بھی گیا۔  
خود کہا کرتی تھیں کہ اُس آسمانی پانی پینے کے بعد زندگی بھر پیاس نہ لگی۔ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب میں سیدہ اُمّ ایمنؓ کا تذکرہ کیا اور فرمایا:

جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسکو چاہیے کہ اُمّ ایمنؓ سے نکاح کر لے، اس اعلان پر سب سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہؓ نے اپنی پیش کش کر دی (جبکہ یہ جوان سال اور سیدہ اُمّ ایمنؓ عمر رسیدہ خاتون تھیں)۔

نکاح ہو گیا پھر یہ وہ مبارک رشتہ ثابت ہوا جس سے اُسامہ بن زیدؓ پیدا ہوئے جو اسلام میں ”محبوبِ نبی“ کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ (الاصحاب ج ۱ ص ۴۱۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتِ طیبہ کے بعد سیدہ اُمّ ایمنؓ آئے دن رویا کرتی تھیں، ایک دن ان سے سیدنا ابو بکر صدیقؓ اور سیدنا عمر الفاروقؓ نے کہا اُمّ ایمنؓ تم اس قدر کیوں رویا کرتی ہو؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وفات پانا تھا؟

سیدہ اُمّ ایمنؓ نے کہا واللہ میں خوب جانتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وفات پانے والے تھے لیکن میں اسلئے روتی ہوں کہ آپ کی وفاتِ طیبہ سے آسمانی وحی بند ہو گئی۔

یہ سنکر دونوں حضرات بھی رو پڑے۔ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

سیدہ اُمّ ایمنؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں موجود تھیں آپ جب انھیں دیکھتے تو فرطِ محبت میں کھڑے ہو جاتے اور استقبالیہ کلمات ارشاد فرماتے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے:

”اب یہ ہمارے خاندان کی آخری یادگار رہ گئیں ہیں“

(طبقات ابن سعد ۲۲۶، اصحابہ ۲۱۶)

## حضرت زید بن حارثہؓ اور ایک کرامت :-

حضرت زید بن حارثہؓ ایک مرتبہ شہر طائف سے مکہ المکرمہ آ رہے تھے کرایہ کا پتھر ساتھ تھا، مالکِ خنجر بھی ہمراہ تھا جو بعد میں ڈاکو ثابت ہوا، اثنائے راہ ایک ویرانہ پر اپنا پتھر کھڑا کر دیا جہاں بہت سارے انسانوں کی بوسیدہ ہڈیاں بڑھی ہوئیں تھیں، یہاں حضرت زید بن حارثہؓ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔

حضرت زید بن حارثہؓ نے اپنے مال و زر کی پیش کش کی لیکن اس نے ایک نہ مانی جب وہ قتل کا ارادہ کر ہی چکا تو حضرت زید بن حارثہؓ نے اس سے گزارش کی کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے؟

ڈاکو نے مسخرے انداز میں کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، تم سے پہلے بھی ان سب نے نمازیں پڑھی تھیں لیکن کسی کو بھی انکی نماز نے نہیں بچایا۔

ادھر حضرت زید بن حارثہؓ نماز سے فارغ ہوئے، ڈاکو قتل کے لئے آگے بڑھا، اسکو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر حضرت زید بن حارثہؓ نے بلند آواز سے اپنے رب کو پکارا ”یا ارحم الراحمین“، اس ندا پر فضا میں ایک آواز گونجی یا فُلَانُ لَا تَقْتُلْهُ ان کو قتل نہ کرنا۔

ڈاکو اس ناگہانی آواز پر لرز گیا، ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پھر ارادہ کیا، حضرت

زید بن حارثہؓ نے وہی کلمہ دہرایا "یا ارحم الراحمین" فضا سے وہی آواز آئی "لا تَقْتُلْنَا" قتل نہ کرنا۔

ڈاکو خوفزدہ ہو گیا کچھ پیچھے ہٹا، اب بھی اُس کو کچھ نظر نہ آیا، سنبھل کر آگے بڑھا، حضرت زیدؓ نے تیسری بار وہی فریاد "یا ارحم الراحمین" بلند کی۔  
اچانک ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لئے ڈاکو کے قریب پہنچ گیا اور اس پھرتی سے اس کے پیٹ پر مارا کہ نیزہ آر پار ہو گیا، ڈاکو مُردہ ہو کر گر پڑا۔

حضرت زید بن حارثہؓ نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اُس سوار سے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔

نو وارد نے کہا میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ "یا ارحم الراحمین" کہا اس وقت مجھ کو حکم بلامدد کے لئے پہنچو، اور جب آپ نے دوسری بار "یا ارحم الراحمین" کہا اُس وقت میں آسمان دُنیا پر تھا، اور جب آپ نے تیسری بار پکارا میں آپ کے قریب آپہنچا اور ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ علامہ سہیلیؒ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ عہد نبوت ہی میں پیش آیا تھا۔

(روض الانفج ۲، حاشیہ البدایہ والنہایں ج ۴، ص ۶۵)

مستدرک حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ ایسے شخص کیلئے مقرر ہے جو اپنی کسی حاجت و مصیبت کے وقت "یا ارحم الراحمین" کہے اللہ کو پکارتا ہے ایسے وقت وہ فرشتہ اس پکار نیوالے کو جواب دیتا ہے ارحم الراحمین تیری جانب متوجہ ہو گیا ہے۔  
(مستدرک حاکم)

## بیرِ معونہ کے شہید :-

بیر کے معنی کنواں اور معونہ گاؤں کا نام ہے (یعنی معونہ کا کنواں)۔ ماہ صفر ۶ھ ہجری میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ شہر نجد (حجاز) سے ایک شخص عامر بن مالک نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا، اپنے ساتھ کچھ نذرانہ بھی لے آیا، آپ نے قبول کرنے سے معذرت کی اور ارشاد فرمایا، میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا (تا آنکہ وہ مسلمان نہ ہو جائے)۔

پھر اس مشرک نے آپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے قبیلے میں بکثرت آدمی مسلمان ہونے کو تیار ہیں اگر آپ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے اپنے چند اصحاب کو روانہ کریں تو اچھے نتائج کی امید کی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش کش پر کچھ اطمینان نہ ہوا، آپ نے فرمایا مجھ کو شہر نجد والوں سے اندیشہ و خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔

جھوٹے عامر بن مالک نے کہا ایسا ہرگز نہیں میں اسکی ضمانت لیتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے شہر افراد کا انتخاب فرمایا جو قرآن (قرآن کے حافظ) کہلاتے تھے پھر اس مشرک کے ہمراہ روانہ کر دیا۔

اس مشرک نے پہلی غداری تو یہ کی کہ مقام معونہ پر (گاؤں کا نام جو شہر

مکہ المکرمہ اور عسفان کے درمیان واقع تھا) قافلہ کے اہم رکن حضرت حرام بن

ملحان کو شہید کر دیا ان کے پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا، حضرت حرام

بن ملحان نے گریہ کرے اور زبان سے یہ الفاظ نکلے:

اللَّهُ أَكْبَرُ فُرْتُ وَسَرَبِ الكَعْبَةِ اللّٰه اَكْبَرُ رَبِّ كَعْبَةٍ كَامِيَابْ هُوَ كَامِيَابْ

پھر اسی خبیث نے بقیہ حضرات کے قتل کا ارادہ کیا اپنی ایک پوشیدہ مسلح جماعت جو کسی گھاٹی میں چھوڑ آیا تھا اشارہ کر دیا، ظالموں نے ان بے ہتھیار انسانوں پر دھاوا بول دیا اور سب کو خاک و خون میں رنگ دیا، اسی مقدس قافلہ میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے غلام عامر بن فہیرہؓ بھی تھے جب انھیں نیزہ مارا گیا تو ان کی زبان سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ فَزَيْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَبِّ كَعْبَةٍ کی قسم مراد پالیا۔

جس مشرک نے حضرت عامر بن فہیرہؓ کو نیزہ مارا تھا اس کا نام جبار بن سلمیٰ تھا خود بیان کرتا ہے، میں نے مسلمانوں سے دریافت کیا ”مراد پالیا، کامیاب ہو گیا“ کا کیا مطلب ہے؟

مجھ سے کہا گیا، انھوں نے جنت پالی۔ بس میں نے اُسی وقت اسلام قبول کر لیا۔

قرآن حکیم کے ان شتر قاریوں نے اپنی شہادت سے پہلے دُعا کی اے اللہ! ہمارا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو پہنچا دے اور یہ خوشخبری کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم بھی خوش ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔  
(طبری ج ۳، ص ۲۵)

حافظین قرآن کی یہ مقدس جماعت مسجد نبوی کے اصحاب صفہ کے لئے روزانہ خوراک کا انتظام کیا کرتی تھی یہ حضرات دن میں جنگل سے لکڑیاں چُنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لئے طعام کا انتظام کرتے، اور رات کا کچھ حصہ درس قرآن میں اور کچھ حصہ قیام لیل و تہجد میں گزارہ کرتے تھے



ان حضرات کے یہی لیل و نہار تھے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  
 ان شتر شہدار میں حضرت عامر بن فہیرہؓ کی لاش آسمانوں کی طرف  
 اٹھالی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی آپ  
 نے ارشاد فرمایا:

”فرشتوں نے اُن کی لاش کو علیین میں پھپھپا دیا ہے۔“

(المخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۲۳)

ملفوظ :-

علیین، اہل جنت کی وہ باعظمت آرام گاہ ہے جہاں اللہ کے محبوب  
 وفات یافتہ بندوں کو قیامت کے دن تک عزت و شان سے مہمان رکھا  
 جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کا حشر یہاں سے ہی ہو۔

مشہور مورخ اسلام موسیٰ بن عقبہؒ حضرت عروہ بن زبیرؓ سے  
 نقل کرتے ہیں کہ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہؓ کی لاش  
 کسی کو نہ ملی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان شتر قاریوں کے شہید  
 ہونے کی خبر ملی آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر شریف میں اتنا صدمہ  
 کبھی نہ ہوا، مسلسل یکماہ آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ بڑھی اور  
 اُن غداروں کے لئے بددعا کرتے رہے۔

یہ بے نصیب غدار لوگ قبیلہ عَصِیَّة، قبیلہ رِعل، قبیلہ ذکوان کے  
 افسراد تھے۔ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

## تین نیک خطا کار :-

کعب بن مالکؓ، مُرارہ بن زبجؓ، ہلال بن امیہؓ۔  
 ماہِ رجب ۱۰ھ ہجری میں روم کے بادشاہ ہرقل نے مدینہ منورہ پر حملہ  
 کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اس ناگہانی اعلان پر مسلمانوں میں بے چینی  
 و تشویش پیدا ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مدینہ کو عام حکم دے دیا کہ مقابلہ  
 کی تیاری شروع کر دی جائے اور جلد از جلد روم کی سرحد مقام تبوک پہنچ جائیں،  
 موسمِ سخت گرم، قحطِ سالی کا زمانہ، عام مسلمانوں میں تنگدستی کا یہ حال تھا کہ روزِ مزہ  
 کی غذا تک میسر نہ تھی، سفرِ دور دراز مقام کا (مدینہ منورہ سے تقریباً اٹھ سو میل)  
 پھر ہر دن آدمی کے حصے میں سواری کے لئے ایک اونٹ کا اوسط، دشمن کی  
 تعداد چالیس ہزار مسلح افراد پر مشتمل، ایسے حالات میں مسلمانوں کا کوچ کرنا  
 ایک سخت آزمائش سے کم نہ تھا۔

لیکن اسلام کے یہ سچے مجاہد عیشِ دنیا اور مصائبِ و آلام سے بے پروا  
 ہو کر مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، تعداد تیس ہزار سے اوپر ہو گئی۔  
 غزواتِ نبویؐ میں یہ پہلا موقع تھا کہ آپؐ نے مجاہدین کی مالی امداد  
 کے لئے عام اعلان فرما دیا۔

صدیق اکبرؓ نے اپنا کل مال آپؐ کی خدمت میں پیش کر دیا جس کی  
 تعداد چار ہزار درہم سے زائد تھی، اس موقع پر آپؐ نے دریافت فرمایا:  
 ابو بکرؓ اپنے گھر کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟

صدیق اکبرؓ نے کہا، ”اللہ اور اُس کے رسول کا نام۔“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 سیدنا عمر الفاروقؓ نے اپنے گھر کا نصف اثاثہ پیش کیا۔  
 سیدنا عثمان غنیؓ نے تین سو اونٹ مع سامان حرب ضرب اور ایک  
 ہزار اشرفیاں (سونے کا سکہ) پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا  
 عثمانؓ کے دینار و درہم کو بار بار پلٹتے اور فرماتے اس عمل کے بعد عثمانؓ  
 کو کوئی عمل ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ (الحديث)

پھر ارشاد فرمایا، ”اے اللہ! میں عثمانؓ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا“  
 (زرقانی ج ۲ ص ۶۴)

صحابہ کرام اور حضرت عثمانؓ کے اس ایثار و قربانی پر رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں، چہرہ مبارک گویا  
 بدر کا منہ تھا۔

آخر کار تیس ہزار کا یہ اسلامی لشکر تبوک روانہ ہوا یہ اتنی بڑی تعداد تھی  
 کہ شہر مدینہ مردوں سے خالی ہو گیا، سوائے بوڑھے، بچے یا معذور انسانوں  
 کے چند ایک ہی جوان و تندرست مسلمان پیچھے رہ گئے۔

ان باقی ماندہ وفاداروں میں حضرت کعب بن مالکؓ بھی شامل تھے،  
 یہ خود بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میری غیر حاضری کسی معقول وجہ سے نہ  
 تھی میں ان دنوں خوشحالی کے علاوہ تندرست و صحت مند بھی تھا، سفر اور  
 زاد سفر کا بھی انتظام کر لیا تھا، سواری کے لئے دو تیز رفتار اونٹنیاں بھی مہیا  
 تھیں، اسلامی لشکر کوچ کرنے کے بعد میں ہر روز ارادہ کرتا آج نہ سہی کل

نکلوں گا اور قافلہ میں شامل ہو جاؤں گا، اسی ”آج کل“ کے بے حقیقت عنوان پر بیس دن گزر گئے۔

تبوک سے اطلاعات آنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لارہے ہیں رومی لشکر نے مسلمانوں کی پیشقدمی و جرات مندی سے مرعوب ہو کر حملہ کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کعب بن مالکؓ کہتے ہیں کہ مجھ کو سخت ندامت و فکر نے گھیر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا عذر پیش کروں؟ جھوٹا عذر پیش کر کے بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر میرا حال ظاہر کر دیا تو قیامت تک کے لئے میری ذلت نصیبی ہو جائے گی بہتر یہی ہے کہ سچی بات ظاہر کر دوں، چنانچہ میں آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا۔

آپ تشریف لائے جیسا کہ آپ کی عادت تھی شریفہ تھی سفر سے واپسی پر آپ اپنے گھر داخل نہ ہوتے تھے بلکہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور پھر کچھ دیر بعد اپنے مکان تشریف لے جاتے۔

ایسے ہی آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تھے، وہ حضرات جو عمداً سفر جہاد میں شریک نہ ہوئے تھے اپنے اپنے جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعذار کو اللہ علیم وخبیر کے حوالہ کرتے جاتے اس وقت میں بھی حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا آپ نے مجھ کو دیکھ کر تبسم فرمایا، ایسا تبسم جو نازاں آدمی کیا کرتا ہے، میرا دل دھڑکنے لگا، پھر آپ نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا، مجھ سے یہ حالت برداشت نہ ہو سکی، میں بول پڑا،

یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں نہ منافق ہوں نہ دین کے بارے

میں شک و شبہ میں مبتلا ہوں اور نہ میں نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کر لی ہے، یا رسول اللہ! آپ نے اپنا رخ کیوں پھیر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جہاد میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ کیا تم نے سواری خرید نہ لی تھی؟

میں نے عرض کیا بیشک یا رسول اللہ! میرے یہاں سفر کے جملہ اسباب مہیا تھے کوئی عذر بھی نہ تھا، اگر میں کسی اور کے آگے ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی ایسا معقول عذر گھڑ کر اُس کی ناراضی سے محفوظ ہو جاتا کیونکہ مجھ کو بات بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن یا رسول اللہ! میں آپ کے آگے سچ سچ ہی بیان کرنا چاہتا ہوں مجھ کو اللہ اور اسکے رسول کی ناراضی کسی بھی صورت برداشت نہیں، یا رسول اللہ! صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا، بس "آج کل" کے دوسو سے نے مجھے روک دیا۔

میرا یہ عذر سنتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا:

أَمْ آهَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمُّ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فَيْدَكَ. (الحدیث)

تم نے سچی بات کہی اب جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔

کعب بن مالک کہتے ہیں میں مجلس مبارک سے اٹھ آیا، قبیلہ بنو سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے پڑ گئے کہنے لگے کعب! تم نے یہ کیا غلطی کر دی ایسے وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگ پیش کر کے چلے گئے تم تو بہت عقلمند آدمی تھے۔ پھر یہ لوگ بار بار ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ دوسرا آیا کہ لوٹ کر اپنا اقرار واپس لے لوں، لیکن اللہ کی توفیق نے مجھے پچھالیا، دل نے کہا ایک گناہ کے بجائے دو گناہ کر لوں، ایک جہاد میں شریک نہ ہونے کا دوسرا

جھوٹ بولنے کا، پھر میں اس شیطانی وسوسہ سے دُور ہو گیا۔  
بعد میں چند حضرات سے معلوم کیا کیا کوئی دوسرے نے بھی میری طرح  
اعترافِ جرم کیا ہے؟

کہا گیا ہاں! دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اعترافِ جرم کیا ہے  
اُن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو تم کو دیا ہے وہ دونوں  
مُراۃ بن ربیعؓ، بلال بن امیہؓ ہیں۔

کعب بن مالکؓ کہتے ہیں جب میں نے ان دونوں بزرگوں کا نام سنا تو  
غزوہ بدر کے مجاہدین میں شامل تھے، میرا غم کچھ ہلکا ہوا اور یہ خیال آیا بس  
میرے لئے ان دو بزرگوں کا عمل قابلِ تقلید ہے ان کا جو انجام ہو گا وہ میرا بھی  
ہو گا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا میرے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے تمام مسلمانوں میں اعلان کروا دیا کہ ان تینوں کعب بن مالکؓ، مُراۃ بن ربیعؓ،  
ہلال بن امیہؓ سے سلام کلام، لین دین، ملنا جلنا کامل طور پر بند کر دیا جائے،  
چنانچہ مدینہ منورہ میں ہمارا مکمل بائیکاٹ ہو گیا۔

اللہ کی قسم! اس اعلان سے ہم تینوں پر جو گزری اُس کا اندازہ کوئی چوتھا آدمی  
نہیں لگا سکتا، میرے دونوں ساتھی جو عمر رسیدہ تھے اس درجہ متاثر ہوئے کہ  
انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا، دن رات اپنے گھر میں روتے پڑے رہے،  
میں چونکہ جوان تندرست آدمی تھا نمازوں کے وقت مسجد نبویؐ حاضر ہوتا، نماز  
سے فارغ ہو کر کسی کو سلام کرتا تو نہ کوئی جواب دیتا نہ ہی بات کرتا۔

مسند عبدالرزاق کی روایت میں یہ اضافہ ہے اُسی وقت ہماری دنیا بکلیت  
بدل گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے اور نہ وہ ہمارے

باغات و مکانات ہیں جو پہلے تھے سب کے سب اجنبی نظر آ رہے تھے لیکن مجھ کو سب سے زیادہ یہ فکر ستا رہی تھی کہ اگر میں اسی حال میں فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے پھر میں خدا کے حضور مجرم کھڑا کیا جاؤں گا۔

یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ وفات پا جائیں تو زندگی اسی طرح ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا، میری معافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، اس فکر نے مجھے رات دن رُلا رکھا تھا، اللہ کی کشادہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تمام مسلمانوں نے منہ پھیر لیا، ہر روز باہر نکلتا، بازار جاتا، نمازوں میں شریک ہوتا، ہر ایک کے قریب جاتا نہ کوئی سلام کرتا نہ جواب دیتا، ہر شخص دُور ہو جاتا اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اپنا رخ الٹا پھیر لیتے، یہ صورت مجھ پر بجلی گرنے سے زیادہ بھاری پڑتی تھی، میں دن رات روتا پھرتا، نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی۔

انہی ایام میں اپنے بہ چچا زاد بھائی ابوقتادہؓ کے پاس زبردستی پہنچ گیا جو میرا عزیز و دوست بھی تھا میں نے نہایت بے بسی سے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا میرا دل بھرا آیا، بھرائی آواز میں پوچھا، ابوقتادہؓ! کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی ابوقتادہؓ نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے دوبارہ سہ بارہ یہی سوال کیا، انھوں نے صرف یہ کہہ کر مجھ کو اور رُلا لیا،

اللہ اور اس کا رسولؐ ہی خوب جانتے ہیں۔

حضرت کعب بن مالکؓ کہتے ہیں، میں اسی بے بسی و تنہائی میں بازار

سے گزر رہا تھا ملک شام کا ایک شخص جو تجارت کے لئے مدینہ طیبہ آیا کرتا تھا عام لوگوں سے دریافت کر رہا تھا، تم میں کعب بن مالکؓ کون ہے؟ کچھ لوگوں نے صرف اشارے سے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ میرے پاس آیا اور ایک بند خط حوالہ کیا جس پر ملک غسان کے بادشاہ کی مہر ثبت تھی، میں نے اس کو کھولا یہ عبارت درج ملی۔

ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ پر سخت ظلم کر رکھا ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو ایسا ذلیل و تنگ حال آدمی نہیں بنایا۔ آپ ہمارے ملک آجائیں، ہم آپ کے شایان شان استقبال کریں گے۔

کعب بن مالکؓ کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میرے دل نے کہا لو یہ ایک اور مصیبت و آزمائش آپڑی۔ میں نے کسی پاس لحاظ کئے بغیر قریب کے تنور میں (جو آگ سے بھرا ہوا تھا) خط ڈال دیا۔ اور اس خط دینے والے سے کہا، یہ اس خط کا جواب ہے۔ لا الہ الا اللہ اسی حالت پر چالیس دن گزر گئے۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت خزیمہ بن ثابتؓ میرے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیام دے گئے۔ ”اے کعبؓ آج سے تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔“ میں نے پوچھا، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ قاصد نے کہا نہیں عملاً ان سے دُور رہو۔

کعب بن مالکؓ کہتے ہیں اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے



پاس بھی پہنچا، میں نے تو اپنی بیوی سے کہا تم اپنے مانباپ کے گھر چلی جاؤ  
وہاں ہی رہو جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آجائے۔

میرے پہلے ساتھی ہلال بن اُمیۃؓ کی بیوی سیدہ خولہ بنت عاصمؓ  
قاصد کا یہ پیام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور  
عرض کیا یا رسول اللہ ہلال بن اُمیۃؓ بوڑھے کمزور آدمی ہیں اور بینائی بھی بہت کم  
ہے ان کے ہاں کوئی خادم بھی نہیں جو ان کی ضروری خدمت انجام دے،  
یا رسول اللہ! اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ضروری خدمت انجام دیدیا  
کروں؟ آپ نے اس شرط پر اجازت دیدی کہ شوہر سے نہ بات کرینگے  
اور نہ قریب ہوں گی، کہا یا رسول اللہ! ان میں تو حرکت بھی باقی نہ رہی انکا  
تو سوائے رونے اور کوئی کام نہیں۔

کعبؓ کہتے ہیں میرے دوسرے ساتھی مزارہ بن ربیعؓ اپنی خطا پر  
اس قدر غمزدہ تھے کہ انھوں نے کھانا پینا، سونا تک چھوڑ دیا، دن رات  
روتے پڑے رہتے، گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا۔

کعب بن مالکؓ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بعض اہل خاندان نے مجھکو  
مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی کی خدمت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
سے اجازت لے لو جیسا کہ ہلال بن اُمیۃؓ کی بیوی نے اجازت لے لی ہے؟  
ان حضرات کو میں نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیا معلوم رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم مجھے اجازت دیں یا نہ دیں؟ ویسے بھی تو میں جوان صحت مند آدمی  
ہوں مجھکو خدمت وغیرہ کی چنداں ضرورت نہیں۔

چنانچہ بیوی سے علیحدگی برداشت دن اور گزر گئے اس طرح پوری

مذت پچاس دن ہو گئی، مجھ پر اپنی عرصہ حیات تنگ تر ہو گئی اور زمین بھی تنگ ہو گئی کہیں بھی قرار نہ پایا جیسا کہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے سورۃ توبہ آیت ۱۱۸۔ یہ تو ہم تینوں خطا کار ساتھیوں کا حشر تھا، ہمارے مزید سات اور مخلص دوست بھی تھے جنہوں نے سستی و کاہلی کی بنا پر اس جہاد میں شرکت نہ کی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ واپس آنے پر انہوں نے اپنے اعذار وغیرہ کا اظہار کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی جواب دیا تھا جو مجھ کو اور میرے دونوں ساتھیوں کو دیا تھا ان سات خطا کاروں میں چار حضرات نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی ہم اس طرح بندھے رہیں گے یا اسی حالت پر فوت ہو جائیں گے، کھانا پینا بھی ترک کر دیا، نمازوں کے وقت وضو طہارت کے لئے آزاد ہو جاتے پھر ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیتے، بھوک پیاس کی شدت سے بعض چکر اکر گر پڑتے پھر سنبھل بھی جاتے۔

انہوں نے یہ مشقت از خود اختیار کر لی تھی اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد کے ستونوں سے کھولیں گے نہیں ہم بندھے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا جب تک رب العالمین مجھے اجازت نہ دیں۔

چنانچہ چند دنوں بعد ان کی توبہ نازل ہوئی اور انہیں معاف کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے بندھن کھول دیئے اور انہیں مبارکباد دی۔

کتاب اسباب النزول میں امام سیوطی نے ان چاروں کے یہ نام لکھے ہیں۔ ابولبابہؓ، مرثاسؓ، اوسؓ بن خدامؓ، ثعلبہ بن وویعہؓ۔  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

سورہ توبہ آیت ۱۱۱ وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخِرَ سَيِّئًا (الآیہ) میں انہی چار حضرات کا تذکرہ ہے۔

ترجمہ :- اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا جنہوں نے ملے جلے (اچھے بُرے) عمل کر لئے تھے سو اللہ سے اُمید ہے کہ ان کے حال پر رحم فرمائیں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

الغرض حضرت کعب بن مالکؓ کہتے ہیں ہماری مصیبت دراز ہوگئی ہمارے بائیکاٹ کے پچاس دن پورے ہو گئے، پچاسویں دن فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر غمگین بیٹھا ہوا تھا، قریب کی پہاڑی کوہ سلح سے کسی کی آواز سنی، بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔

”اے کعبؓ تم کو بشارت ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔“

یہ آواز دینے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے، میں نے آواز پہچان لی اسی وقت سجدہ میں گر پڑا اور فرط مسرت میں رو پڑا مجھ کو یقین ہو گیا کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے اصحاب کو کعب بن مالکؓ اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر نہ ہوئی ہر طرف سے لوگ، ہمو مبارکباد دینے کے لئے دوڑ پڑے۔ میں مسجد نبوی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کا چہرہ اقدس

خوشی و مسرت میں چاند کی طرح دمک رہا تھا۔  
 ارشاد فرمایا، اے کعبؓ آج تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔  
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ بیچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے  
 نجات دی اب میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔  
 ان تین سچے خطا کاروں (کعب بن مالکؓ، مرثد بن ریحانؓ، ہلال بن امیہؓ)  
 کی قبول توبہ کا ذکر وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا الخ الآية، سورہ توبہ آیت  
 نمبر ۱۸ میں موجود ہے۔

ترجمہ :- اللہ نے ان تینوں کے حال پر بھی رحم فرمادیا جن کا معاملہ ملتوی  
 کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ ان کی مصیبت اس حد تک پہنچ گئی کہ زمین باوجود  
 اپنی کشتادگی و فراخی ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی زندگی سے بھی تنگ  
 آچکے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب نجات صرف اللہ ہی کے فیصلہ پر  
 ہے پھر اللہ نے ان کے حال پر رحم فرمادیا تاکہ وہ بھی توبہ کرتے رہیں،  
 بیشک اللہ توبہ قبول کر نیوالا بڑا مہربان ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۶۲۳)

## تین سچے وفادار :-

سعد بن معاذؓ، مقداد بن اسودؓ، عبیدہ بن الحارثؓ،  
 ہجرت مدینہ کے دوسرے سال ماہ رمضان ۲ ہجری مطابق ۱۱ مارچ  
 ۶۲۲ء جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، نبیوں کا خواب بھی وحی الہی کا ایک  
 حصہ ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کے

دو قافلوں میں سے ایک قافلہ پر غلبہ و تسلط دکھایا گیا اور آپ کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ جس قافلے کو چاہیں حاصل کر لیں۔

ان دنوں مکہ المکرمہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے جان و مال، زمین و مکان پر ہر سمت سے دھاوا بول رکھا تھا، لوٹ مار، غارت گری کا بازار گرم تھا، کوئی بھی مسلم قافلہ قریش مکہ کی ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلائے گئے وہ دونوں قافلے یہ تھے۔

(۱) مشرک سردار ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے براہِ مدینہ منورہ مکہ المکرمہ جانے والا تھا۔

(۲) کفارِ مکہ کا وہ فوجی دستہ جو ابوسفیان کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لئے مکہ المکرمہ سے روانہ ہونے والا تھا جس میں کفارِ مکہ کے تمام نامی گرامی سردار سامانِ حرب و ضرب سے لیس تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا اور مشورہ چاہا کہ کس قافلہ کو حاصل کیا جائے؟ بعض صحابہ نے پہلے قافلہ پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا اور دیگر بعض نے دوسرے قافلہ کا۔ آخر کار یہی بات طے پائی کہ تجارتی قافلہ حاصل کر لیا جائے۔

اس مہم کو سر کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ کے رئیس حضرت سعد بن معاذؓ عمرہ ادا کرنے مکہ المکرمہ پہنچے جہاں وہ مشہور مشرک سردار امیتہ بن خلف کے مہمان ہوئے جو حالتِ کفر میں ازکا دوست تھا، حضرت سعدؓ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ابو جہل نے انھیں دھمکی دی۔

”اے سعدؓ تم نے ہمارے دین کا انکار کر نیوالوں (مہاجرین)

کو مدینہ منورہ میں پناہ دی اور ان کی اعانت کی، اگر تم میرے دوست ائیمہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہ ہوتے۔“

حضرت سعد بن معاذ نے نہایت پُر اعتمادی سے جواب دیا۔  
 ”ابو جہل! اللہ کی قسم، اگر تم نے مسلمانوں کو بیت اللہ کے طواف سے روک دیا تو، ہم تمکو اُس چیز سے روک دیں گے جو تمہارے لئے اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، یعنی ملک شام سے تمہارے تجارتی قافلے براہ مدینہ منورہ روک دیں گے۔ (اُس وقت اہل مکہ کی تجارتی راہ صرف مدینہ منورہ تھی۔)“

حضرت سعد بن معاذ کی اس جرأت و بے باکی پر ابو جہل حیران رہ گیا، پھر حضرت سعد بن معاذ کو مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔

الغرض صحابہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ لینے کیلئے کوچ کیا، ہمراہ تین سو تیرہ اصحاب تھے جو سامانِ حرب و ضرب سے خالی صرف ضروری اسباب ساتھ تھا۔

تجارتی قافلہ کے سردار ابوسفیان کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ مدینہ منورہ سے مسلمان قافلہ پر حملہ کرنے نکل چکے ہیں، ابوسفیان نے نہایت عجلت سے کام لیا اور مکہ المکرمہ کے سرداروں کو اس خطرے سے مطلع کر دیا، اور خود عام راستہ بدل کر ساحلِ سمندر سے ہوتا ہوا مکہ المکرمہ روانہ ہو گیا۔

مکہ المکرمہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے اس غیر متوقع اقدام نے بڑھم کر دیا جو شہ انتقام میں سب پاگل ہو گئے، ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کو بچانے

اور مسلمانوں کی سرکوبی کرنے کے لئے قبیلے کے ہر ہر سردار نے اپنی خدمات پیش کیں، ایک ہزار کا زبردست مسلح لشکر تیار ہو گیا، سامان حرب و ضرب بے پناہ تھا، سات سو جنگی لباس بستر گھوڑے، بے شمار اونٹ، اور اقدامی و دفاعی سامان سے لیس ہو کر جمع ہو گئے۔

مقصد یہ تھا کہ اپنے تجارتی قافلہ کو بچالیں اور مسلمانوں کے قافلے کو نیست و نابود کر دیں تاکہ آئندہ ان کی طاقت ابھرنے نہ پائے۔

اس عرصے میں مسلمانوں کا قافلہ مقام بدر کے قریب پہنچ گیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ کسی بھی وقت بدر پہنچنے والا ہے اور یہ بھی اطلاع ملی کہ مکہ المکرمہ سے قریش کا زبردست لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے بدر کی جانب رواں دواں ہے۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہؓ سے پھر مشورہ کیا، فرمایا:

”دشمن ہمارے سر پر ہے اور تجارتی قافلہ بھی قریب ہے  
بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دشمن سے جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ؟  
یا بغیر لڑے تجارتی قافلہ پر قبضہ؟“

بعض صحابہ نے جنگ کو پسند نہیں کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگ کرنے کیلئے مدینہ سے نہیں چلے تھے، بے سار و سامان بھی ہیں بہتر ہے کہ تجارتی قافلہ پر قبضہ کر کے واپس ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمزور رائے پسند نہ آئی۔

ارشاد فرمایا، قافلہ کا ذکر چھوڑو اب اس قوم (مشرکین مکہ کی فوج) کے متعلق مشورہ دو جو تمہارے مقابلہ کے لئے چل پڑی ہے۔ بعض دیگر اصحاب

نے جب دوبارہ یہی عذر پیش کیا تو آپ نے پھر پہلی بات دُھرا دی، تب بعض جلیل القدر صحابہؓ نے سمجھ لیا کہ آپ کی مرضی مُبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے نہ کہ تجارتی قافلہ سے۔

حضرت مقداد بن اسودؓ کھڑے ہو گئے اور نہایت حوصلہ مندی سے کہنا شروع کیا۔

”یا رسول اللہ ہم جنگ کے لئے ہر طرح تیار ہیں بس آپ اپنا حکم جاری فرمادیں اللہ نے آپ کو جس امر کا حکم دیا ہے اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہیں کہیں گے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔“ یا رسول اللہ، ہم قوم بنی اسرائیل کے برخلاف یہ کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے ہر چار سمت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔“

راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں، حضرت مقداد بن اسودؓ کی اس ولولہ خیزی و فداکاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی و مسرت سے دُمک اُٹھا۔ (بخاری ج ۲، ص ۵۹۴، غزوہ بدر) صحابہ کرام کی اس اطاعت شعاری و جاں نثاری کے باوجود آپ نے پھر تیسری بار یہی کلمات دُہرائے۔

انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن معاذؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! شاید آپ کا روئے سخن انصاریوں کی جانب ہے؟ آپ نے



ارشاد فرمایا، ہاں!

حضرت سعد بن معاذؓ اس طرح گویا ہوئے جو قیامت تک تاریخ وفاداری کا سرمایہ رہے گا۔

”یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جس قدر تعلیمات لائے ہیں وہی حق و سچ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اطاعت و جانثاری کے پختہ عہد و پیمان آپ کو دے چکے ہیں۔

یا رسول اللہ! آپ مدینہ طیبہ سے کسی اور ارادے کے تحت نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرمادی ہے، آپ کا جو منشار ہو پورا کیجئے، جس سے چاہیں تعلقات قائم کر دیجئے اور جس سے چاہیں تعلق قطع کر دیں اور جس سے چاہیں صلح کا معاملہ طے کر لیں ہمارے اموال سے آپ جس قدر چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا کریں۔

یا رسول اللہ! مال کا وہ حصہ جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس حصے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو گا جو ہمارے لئے آپ چھوڑ دیں گے۔

یا رسول اللہ! اگر آپ ہمیں برک النقاد (دور دراز مقام کا نام) تک چلنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں ہم اسی وقت کود پڑیں گے

ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ ہوگا، یا رسول اللہ! ہمارے دل دشمنوں سے مقابلہ کے لئے تنگ نہ ہوں گے۔

یا رسول اللہ! ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے اور مقابلہ کے دن سچے ثابت ہوں گے، اللہ سے اُمید ہے کہ وہ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دل خوش ہوگا۔ یا رسول اللہ! بس آپ اللہ کے نام پر ہمیں لے چلیں۔  
(زرقانی ج ۱ ص ۱۳۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے یہ فداکارانہ پُر عزام جوابات سن کر بیحد مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا:

اللہ کے نام پر چلو تم کو بشارت ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مشرکین مکہ کی فوج یا ابوسفیان کا تجارتی قافلہ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک پر ضرور فتح دے گا۔ اور مجھ کو کافروں کی مقتل (قتل گاہیں) دکھائی گئیں ہیں کہ فلاں کافر فلاں جگہ اور فلاں، فلاں جگہ مارا جائے گا۔ پھر آپ نے میدان بدر پہنچ کر ان مقامات کی نشاندہی فرمادی جہاں آپ کو کافروں کے مقتل (قتل کی جگہیں) بتائے گئے تھے۔ (صحیح مسلم)

مہاجرین و انصار سے آپ نے جو مشورہ لیا تھا اس کا تذکرہ قرآن حکیم کی آیات ذیل میں اس طرح موجود ہے۔

كَمَا آخَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ - الخ (سورۃ انفال آیت ۵ تا ۸)

ترجمہ:- جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر (اور بستی سے) مصلحت کے ساتھ (بدر کی طرف) روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو

گمراہ (بھاری) سمجھتی تھی (اور) وہ اس مصلحت (کے کام) میں بعد اسکے کہ اسکا ظہور ہو گیا تھا (اپنے بچاؤ کیلئے) آپ سے (بطور مشورہ) اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیا جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اُس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اُن دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائیں گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مستح جماعت (تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ کو منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا (عملاً) ثابت کر دے اور ان کافروں کی بنیاد (قوت) کو قطع کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا (عملاً) ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔

حضرت عبیدہ بن الحارث بن جنگ بدر میں نہایت پُر اعتمادی اور دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول تھے دشمن کے ہر حملہ کو ناکام بنا رہے تھے، صبح سے شام ہو گئی آپ کی حفاظت کو نہ چھوڑا، آخر ایک مشرک کے اچانک اور غیر متوقع حملہ سے انکا ایک پیر چُدا ہو گیا اور یہ گمراہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو زخمیوں میں ٹھیرا دیا، جنگ کے اختتام پر جب انھیں اسی زخمی حالت میں مدینہ طیبہ لے جایا جا رہا تھا درمیان راہ مقام صفراء میں وفات پائی اور اسی جگہ سپردِ خاک بھی کر دیئے گئے۔ رضی اللہ عنہ

اس حادثے کے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس راہ سے ہو رہا تھا آپ نے کچھ دیر ایک جگہ استراحت فرمائی، صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں مُشک کی بے پناہ خوشبو مہک رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تعجب ہے یہاں عبیدہ بن الحارث کی قبر ہے۔ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ (اصابح ج ۱ ص ۴۲۵)

## حَدِيثُ الْكِفْلِ :-

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام کفل تھا، اس کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتا آرہا ہے، اس واقعہ کو ”حدیث الكفل“ کہا جاتا ہے۔ (کفل کا واقعہ) اسی نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔

اس واقعہ کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چار سات مرتبہ نہیں بلکہ اس سے کہیں زائد بار سنا ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل نامی گزرا ہے یہ ایسا مجرم صفت انسان تھا کہ کوئی گناہ اس سے نہیں چھوٹا، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کر لیا کرتا تھا ایسے ہی وہ اپنی خبیث عادت کے تحت ایک دن ایک بے گناہ مجبور عورت کے پاس آیا جو اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے مع اپنے چھوٹے بچوں فقر و فاقہ میں مبتلا تھی، کفل نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اس مسکین عورت سے ایک رات کا معاوضہ ساٹھ دینار (اشرفی) دیکر لے کر لیا۔ (اشرفی سونے کا سکہ ہوا کرتا ہے)

پھر مقررہ وقت پر اس کے گھر آیا اور بدکاری کا ارادہ کرنا ہی چاہا تھا کہ عورت کانپنے اور رونے لگی، کفل کو غصہ آیا اور تعجب بھی ہوا کہ راضی مرضی سے معاملہ طے ہوا پھر یہ رونا چلانا کیسا؟

پوچھا کیا بات ہے؟ کیا میں نے زبردستی یہ معاملہ کیا ہے؟ اور کیا

میں نے تجھے اُجرت نہیں دی ہے؟

پاکباز عورت نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں لیکن آج ایسے عمل سے سابقہ پڑ رہا ہے جس کو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا ہے۔

عورت کے جواب سے کفل کو ایک دھکا لگا، بوچھا تو پھر تو نے مجھ سے ایسا معاملہ کیوں کیا؟

کہنے لگی، بھوک پیاس نے مجھے یہاں تک کھینچ لیا ہے۔

کفل کو ایک اور دھکا لگا، کہنے لگا تیسری مجبوری بے بسی نے تجھ کو اس منزل تک پہنچا دیا؟

یکدم کھڑا ہوا، کہا: دینار اپنی ضرورت میں صرف کر لے، اب مجھ کو تیسری ضرورت نہیں۔ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ

گھر واپس ہوا دل رونے لگا، عورت کی بے بسی اور خدا ترسی سے دل پھٹا جا رہا تھا، سچی توبہ کی، پتکا عہد کیا کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرے گا۔ اپنی بے حیائی، بے باکی، بد عملی پر رات بھر غم و دکھ میں اپنا سر پٹک پٹک کر اللہ سے معافی طلب کی، آخر شدتِ غم کو برداشت نہ کر سکا صبح ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر

اس زمانے کے نبی صبح کے وقت اس کے گھر سے گزر رہے تھے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر نورانی حروف میں یہ عبارت کندہ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَضَرَ الْكِفْلَ -

اللہ نے کفل کی مفسرت فرمادی۔ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ (ترمذی ج ۷ ص ۷۵)

## حضرت ابو احمد بن حنشلؓ :-

مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے وقت مسلمانوں نے اپنی زمینات، باغات اور دیگر سازوسامان چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ ضروری اثاثہ بھی ساتھ نہ رکھا، مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ صرف اپنے ایمان و اسلام کی بقا و تحفظ کی خاطر تھا تا کہ اللہ کی وسیع زمین پر اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنی بقیہ زندگی صرف کر دیں۔

مسلمانوں کے مکہ المکرمہ سے نکل جانے کے بعد ان کی ساری املاک و جائیداد مشرکین مکہ نے ہڑپ کر لیں جس کے ہاتھ جو آیا قبضہ کر لیا۔ پھر جب شہہ ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا اور مسلمان فاتحانہ داخل ہوئے تو بعض صحابہ نے چاہا کہ انھیں اپنی زمین و مکان واپس مل جائے۔

ان حضرات میں ایک ابو احمد بن حنشلؓ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا مکان مشرک سردار ابوسفیان کے قبضہ میں ہے براہ کرم آپ واپس دلا دیں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں قریب بلایا اور کان میں آہستہ سے ارشاد فرمایا، ”اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے اس کے بدلے جنت کا ایک محل مل جائے گا“

ابو احمدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر تو میں صبر ہی کروں گا۔

ان کے علاوہ بعض دیگر مہاجرین نے بھی چاہا کہ ان کے مکانات ان کو واپس مل جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہی فرمایا کہ جو

مال ایک دفعہ اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اُس کی واپسی پسند نہیں کرتا۔  
 آپ کے اس ارشاد پر سارے مہاجرین نے اپنی اپنی جائیداد سے  
 دستبرداری اختیار کر لی۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الصَّارِمُ الْمَسْلُوبُ ۱۵۴ ابن تیمیہ)**

## ایک مخلص صحابیؓ:

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی  
 مجلس میں آئے اور بیٹھ گئے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اپنے دست مبارک سے اُنکی انگوٹھی اتار دی  
 اور پھینک دیا پھر ناگواری کے لہجہ میں ارشاد فرمایا:

”کیا کوئی آگ کا شرارہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟“

مطلب یہ تھا کہ جب سونے کا استعمال مردوں کے لئے ممنوع ہے تو  
 پھر ایسا عمل کیوں اختیار کیا جائے۔

راوی حدیث کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے  
 گئے تو بعض حضرات نے اُس شخص سے کہا، اب تو آپ تشریف لے گئے  
 ہیں اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔

ان صاحب نے جواب دیا:

اللہ کی قسم! جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں  
 اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟  
 (مسلم شریف)

## ایک جذامی خاتون :-

امام شافعیؒ کے استاذ ابن ابی مُلیکہؒ کہتے ہیں، سیدنا عمر الفاروقؓ نے بیت اللہ کے طواف میں ایک جذامی عورت کو دیکھا کہ وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔

فرمایا، اے اللہ کی بندی! اپنے گھر بیٹھی رہ لوگوں کو ایذا نہ دے، اس پر وہ عورت بیت اللہ سے باہر آ گئی۔

سیدنا عمر الفاروقؓ کے انتقال کے بعد کسی شخص نے اُس خاتون سے کہا، اب تو عمر بن الخطابؓ انتقال کر گئے ہیں اب تو طواف کر لیا کر؟ اُس جذامی خاتون نے جواب دیا۔

عمر بن الخطابؓ کی حیات میں میں نے اطاعت کی، وفات کے بعد کیا نافرمانی کروں؟ (موطا امام محمدؒ ص ۲۲۱)

## ایک خستہ حال صحابی :-

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے صاحبزادے ابو بکرؒ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد بزرگوار کو میدان جنگ میں دشمنوں کی صف کے آگے یہ فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

رَأَى أَبَوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْطَانِ - (الحديث)

ترجمہ :- جنت کے دروازے تلواروں کے سایہ تلے ہیں۔

اس وقت مسلمانوں کی صف سے ایک خستہ حال نوجوان نکلا اور میرے والد



سے پوچھا، کیا یہ ارشاد آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟  
میرے والد نے جواب دیا، ہاں! میں نے خود سنا ہے۔

یہ جواب سنتے ہی وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، سلام کیا،  
اپنے تلوار کی نیام توڑ دی پھر دشمنوں کی صف میں بے جگری سے داخل ہوا  
اور ایسا شدید حملہ آور ہوا کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، آخر  
شدید زخموں کے بعد شہید بھی ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ

(ترمذی شریف جلد ۱ ص ۲۱۳)

## ایک انصاری صحابی :-

حضرت یحییٰ بن سعیدؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
میدان جہاد میں مجاہدین کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ اور جنت اور اُسکی  
نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور خوب رغبت دلائی۔

ایک انصاری صحابی اس وقت بھوک پیاس کی وجہ سے چند عدد  
کھجور کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلیغ دعوت و ترغیب  
سنکر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور اس طرح گویا ہوئے۔

دوستو! اگر میں اس طرح کھاتے بیٹھتا رہتا تو میں بڑا حریص قسم کا آدمی ہو جاؤں گا۔  
ہاتھ میں جو چند ایک کھجور تھیں پھینک دی، اپنی تلوار سنبھال لی پھر  
دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور آخر دم تک تلوار چلاتے رہے، زخموں  
سے چور ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔

(موطا امام مالک باب الترغیب فی الجہاد)

## ایک غیر معروف صحابیؓ:

حضرت جابر بن سلیمؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو صحابی رسولؐ تھے مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ میں کبھی گالی نہ دوں گا (غالباً یہ ان صاحب کی عادت تھی) اس عہد کے بعد میں نے آج تک نہ کسی شریف آدمی کو گالی نہ دی نہ کسی معمولی انسان کو حتیٰ کہ جانوروں کو بھی گالی دینا چھوڑ دیا (جیسا کہ گاؤں والے دیا کرتے ہیں)۔

(ابوداؤد)

## حضرت خرم الاسدیؓ:

حضرت ابن الحنظلیہؓ ایک بزرگ و متقی صحابی رسولؐ ہیں، عام لوگوں سے بہت ہی کم ملا کرتے تھے، اپنے اوقات کو ذکر و عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رکھتا تھا، عمر رسیدہ صحابہؓ آپ کی صحبت و ملاقات کے مشتاق رہا کرتے، ایسے ہی ایک موقع پر مشہور صحابی ابوالدرداءؓ حضرت ابن الحنظلیہؓ کی زیارت کے لئے تشریف لائے اور گزارش کی چند کلمات ہی ارشاد فرمادیں جو ہمیں نفع دیں گے اور آپ کا کچھ نقصان نہ ہوگا؟

حضرت ابن الحنظلیہؓ نے فرمایا، سنو! ایک مرتبہ نو مسلم دیہاتی جن کا نام خرم الاسدیؓ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے، ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نِعْمَ الرَّجُلُ خَرَمُ الْإِسْدِيِّ لَوْلَا طَوْلُ جَمَّتِهِ وَرِاسْبَالُ إِزَارِهِ  
خرم الاسدی اچھا آدمی ہے اگر وہ اپنے سر کے بال اور اپنی ازار (لنگی)

دراز نہ رکھتا؟

خریم الاسدیؓ کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے بارے میں ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وقت قینچی لی اپنے بال کاٹ کر کانوں کے برابر کر دیئے اور اپنی ازار کو نصف پنڈلیوں تک اٹھالیا۔

(ابوداؤد، کتاب اللباس)

## حضرت وائل بن حجرؓ:

یہ دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (مدینہ منورہ) ایسے حال میں آئے کہ سر کے بال دراز تھے، آپ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ناگوار لہجہ میں ”ذُبَابٌ، ذُبَابٌ“ فرمایا (عربی زبان میں یہ کلمات ناگوار صورت حال پر کہے جاتے ہیں)۔

وائل بن حجرؓ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت مجلس سے اٹھا اور پورے بال کاٹ کر سرفاف کر لیا۔ دوسرے دن حسبِ معمول آپؐ کی مجلس میں آیا آپؐ نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا:

”مرا یہ منشار نہ تھا لیکن تم نے بہت اچھا کیا۔“ (ابوداؤد، کتاب الترتیل)

## حضرت محمد بن عبد اللہؓ:

حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا محمد بن عبد اللہؓ سے نقل کرتے ہیں، میرے دادا فرمایا کرتے تھے، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، درمیان راہ ایک مقام پر آپؐ نے مجھ کو تیز نظر سے دیکھا، میرے جسم پر زعفرانی (زر درنگ)

کی چادر تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیسی چادر ہے؟  
میں نے محسوس کیا کہ آپ کو یہ رنگ پسند نہیں، سفر سے واپسی کے  
بعد میں نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس چادر کو تنور میں جھونک دیا، دوسرے  
دن جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، اس چادر کو  
تم نے کیا کیا؟

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کو تو تنور میں جلادیا، آپ نے ارشاد  
فرمایا، گھر کی عورتوں کو دیدیا ہوتا۔ (عورتوں کیلئے یہ رنگ جائز ہے)۔

## حضرت رافع بن خدیج رضی

رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے ساتھ تھے ہمارے اونٹوں اور بجاؤں پر سرخ ریشم کے دھاکے والے کپڑے  
اور تھیلیاں تھیں، آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ کیا بات ہے تم پر زرد رنگ کا غلبہ  
ہوتا دیکھ رہا ہوں؟

آپ کی اس ناگواری پر ہم تیزی سے اپنے اونٹوں کی طرف چلے گئے کہ بعض  
اونٹ ہماری تیزی و پھرتی سے بدک گئے۔ ہم نے وہ سارے زرد کپڑے اتار دیئے۔  
(مردوں کو زرد رنگ کے کپڑے استعمال کرنا ممنوع ہے البتہ عورتوں کو اجازت ہے)۔

## ایک نو مسلم صحابیؓ:-

حضرت برار بن عازبؓ کہتے ہیں، اسلام کے ایک معرکہ میں دشمنوں کی  
صفوں سے ایک ایسا شخص آیا جو سر اُپا جنگی ساز و سامان سے ڈھکا ہوا تھا وہ

آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا:  
یا محمد کیا میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں؟ یا اسلام قبول کروں؟  
آپ نے ارشاد فرمایا:

أَسْلِمْتُ ثُمَّ قَاتِلْ، پہلے مسلمان ہو جا پھر جہاد کر۔  
اتنا سنتے ہی وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، پھر نہایت عجلت میں  
مشرکین کی صفوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا ایسا معرکہ انجام دیا کہ اس کی زندگی  
شہادت پر ختم ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے شہید ہو جانے کی اطلاع  
میلی ارشاد فرمایا:

عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۹۴)  
عمل تو مختصر کیا لیکن اجر عظیم پایا۔

## حضرت خباب بن الارتؓ

حضرت خباب بن الارتؓ سابقین اولین مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ  
سیدنا عمر بن الخطابؓ کے بہنوئی ہوتے ہیں، سیدنا عمرؓ انہی کے گھر مسلمان  
ہوئے ہیں، حضرت حارثہ بن مضربؓ کہتے ہیں، میں حضرت خبابؓ کی عیادت  
کرنے اُنکے گھر گیا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پر داغ  
(جو اس زمانے کا علاج تھا) لگا رکھا تھا۔

میری مزاج پُرسی پر حضرت خبابؓ نے فرمایا میں نے کسی شخص کو بھی ایسی  
تکلیف میں نہیں دیکھا جیسا کہ میں تکلیف زدہ ہوں، ابتداء اسلام میں ہم

اصحاب رسول کی عزت و تنگدستی کا یہ حال تھا کہ ایک درہم بھی ہمیں میسر نہ تھا، فقر و فاقہ کا دورہ رہا کرتا تھا۔

اور آج ہماری خوشحالی و فراخی کا یہ حال ہے کہ اس وقت گھر کے ایک گوشے میں چالیس ہزار درہم پڑے ہیں ہماری اُس جانب کوئی رغبت نہیں ہے۔

صحت کی قلت، بیماری کی شدت نے ایسا تنگ کر دیا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کے غم و مصیبت سے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ فرماتے تو میں موت کی تمنا اور دعا کر لیتا۔ (مطلب یہ تھا کہ بیماری اتنی شدید ہے کہ موت بھلی معلوم ہوتی ہے)۔ (ترمذی ج ۱ ص ۱۲۸)

## حضرت ابو مسعود رضی

حضرت ابو مسعود رضی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے خادم کو اُسکی خطا پر مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، ابو مسعود خیردار! ابو مسعود خیردار! پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ أَفْكَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلِيًّا -

اللہ کا اقتدار تیرے اُس اقتدار سے بلند و بالا ہے جو تجھ کو اپنے خادم پر حاصل ہے۔

حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں، اس ارشاد کے بعد میں نے زندگی بھر کسی

غلام و خادم کو نہیں مارا۔ اللہ اکبر (ترمذی ج ۱ ص ۱۷۱)

## حضرت ثابت بن قیسؓ :-

یہ جلیل القدر صحابی چند دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر رہے ایک دن آپ نے انھیں یاد فرمایا اور دریافت فرمایا کہ ثابت بن قیسؓ کو کیا ہو گیا وہ نظر نہیں آتے؟

ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خبر لے آتا ہوں؟

آپ نے اجازت دے دی وہ صاحب ان کے گھر پہنچے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں سر جھکائے غمزہ بیٹھے ہیں۔ میں نے انھیں سلام کیا، پوچھا کیا بات ہے؟ مزاج کیسا ہے؟

حضرت ثابت بن قیسؓ نے کہا، حال بہت بُرا ہے۔

ان صاحب نے پوچھا خیر ہو کیا ہو گیا؟

جواب دیا تمکو معلوم ہے چند یوم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تھیں جن کو آپ نے پڑھ کر سنایا تھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - (سورة الحجرات آیت ۲)

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو اور نہ

ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا

کرتے ہو کہ میں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمکو اسکی خبر بھی نہ ہو۔

اسکے بعد حضرت ثابت بن قیسؓ نے ان صاحب سے کہا تم کو معلوم ہے میں فطرۃ بلند آواز ہوں، عام بول چال میں بھی میری آواز بلند ہو جاتی ہے اگر مجلس نبوی میں کبھی میری بلند آوازی ہو گئی تو میری زندگی بھر کے اعمال غارت ہو گئے اور میں خسارے میں پڑ گیا، اس لئے مجلس نبوی میں حاضر ہونے کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔

حضرت ثابت بن قیسؓ کا یہ حال سن کر وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت ثابتؓ کا عذر بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صاحب کو یہ بشارت سنانے کے لئے ثابت بن قیسؓ کے گھر روانہ فرمایا:

”إِنَّكَ لَسَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ“  
تم جہنمی نہیں، جنتی ہو۔

**ملحوظہ :-** آیت شریفہ میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت کرنا یا آپ کے کلام شریف میں خلل اندازی کرنا یا اس کا ادب و احترام نہ کرنا مراد ہے، صرف بلند آوازی مراد نہیں، ویسے بھی بڑوں کے آگے بلند آوازی بے ادبی و ناشائستگی کی علامت ہوا کرتی ہے، خاص کر نبی و رسول کی موجودگی میں کچھ اور ایسی زائد گستاخی شمار کی جائے گی۔

آپ نے سنا ہوگا، با ادب با ایمان بے ادب بے ایمان۔

حضرت ثابت بن قیسؓ نے آیت کا ظاہری مفہوم سمجھا (یعنی اونچی آواز میں رسول اکرم سے بات کرنا) یہ آیت کی مراد نہ تھی۔ اس خوشخبری کے بعد



حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ مجلس میں آنے لگے لیکن ادب و احتشام کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا ہوتا تو اتنی خفیف آواز سے بات کرتے کہ بعض اوقات دُھرانے کی ضرورت پڑتی۔ (بخاری)

## حضرت عمرو بن الجموح، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما

یہ دونوں انصاری صحابی قبیلہ بنو سلیم کے ہیں، غزوہ اُحدؓ میں ہجری میں دونوں شریک تھے اور اسی غزوہ میں شہید بھی ہو گئے۔ اُحد کے شہدار کو جہاں دفن کیا گیا اس کے قریب، ایک خشک ویران نہر تھی اس کے کنارے ان دونوں صحابی کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔

اس معرکہ میں شہیدوں کی کثرت کی وجہ سے ایک ایک قبر میں دو، دو، دو، چار چار شہیدوں کو سپرد خاک کیا گیا تھا، کچھ عرصہ بعد وہ خشک نہر جاری ہو گئی اور اس کا پانی ان دو شہیدوں کی قبر کے قریب ہونے لگا، اُس وقت یہ مشورہ کیا گیا کہ ان دونوں کی لاش کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جانا چاہیے۔

چنانچہ قبر کھولی گئی، دونوں شہیدوں کی لاش ایسے ہی تروتازہ تھی گویا گزشتہ کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ نہ کفن میں اور نہ ہی جسم میں کسی قسم کا تغیر و بگاڑ تھا، ان میں ایک شہید کو گہرا زخم تھا جس پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا اسی حالت میں انہیں دفن کیا گیا تھا وہ ہاتھ ویسے ہی اُس زخم پر رکھا ملا، لاش اُٹھانے والے صاحب نے ان کا ہاتھ اُس زخم سے علیحدہ کیا دوسرے لمحہ وہ ہاتھ زخم پر آ گیا جیسے پہلے تھا۔

واقعہ کے نقل کرنے والے عبدالرحمن بن عبداللہ کہتے ہیں، اس واقعہ

اور غزوہ اُحد کے درمیان چھیا لیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ  
(موطا امام مالک، باب الترغیب فی الجہاد)

## حضرت سعد بن زبیع انصاریؓ:

غزوہ اُحد میں اختتام جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا،  
تم میں کوئی ایسا ہے جو سعد بن زبیع انصاریؓ کی خبر لائے؟ (یہ مخلص صحابی میدان اُحد  
میں دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں  
سے اوجھل ہو گئے تھے) اگر وہ زندہ ہوں تو میرا سلام کہہ دینا اور خیریت پوچھنا۔  
حضرت زید بن ثابتؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں، آپ نے  
انہیں اجازت دے دی۔

حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں، میں زخمیوں اور شہیدوں کے ہجوم میں  
انہیں تلاش کر رہا تھا، اس معرکہ میں سینکڑوں صحابہ شہید و زخمی ہوئے ہیں میدان اُحد  
کے ایک جانب حضرت سعد بن زبیعؓ کو زخمی حالت میں پڑا دیکھا، ان میں ابھی  
زندگی کے کچھ آثار باقی تھے، جسم بے شمار زخموں سے چور چور تھا، میں نے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام پہنچایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام و سلام سنتے ہی حضرت سعد بن  
زبیعؓ کے جسم میں ایک قسم کا ارتعاش پیدا ہوا، آنکھیں کھول دیں، حضرت  
زید بن ثابتؓ کو دیکھنے لگے اور یہ کہنے لگے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام عرض کر دو اور یہ حال بھی عرض کر دو  
”میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے اپنے

دشمنوں کا کام تمام کر دیا ہے۔“

اسے زیدؓ! میری قوم انصار سے یہ بھی کہدینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ میں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عُذر قبول نہ ہوگا، اسکے بعد حضرت سعد بن ربیعؓ کی رُوح پرواز کر گئی۔

حضرت اُبی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کی یہ گفتگو سُن کر فرمایا:

”اللہ اس پر رحم کرے وہ اللہ اور اُس کے رسول کا خیر خواہ، وفادار رہا زندگی میں اور مرتے وقت بھی۔“ (موطا مالک، استعاب ابن عبد البر، ج ۱ ص ۲۵)

## ایک نابینا صحابیؓ:

ایک دن صبح صبح مدینہ منورہ میں شور مچ گیا کہ فلاں عورت کو قتل کر دیا گیا عہد نبوت میں ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے اس لئے قدرۃً اسکا چرچا کچھ زائد ہی ہوا۔ قاتل کا پتہ نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں عام اعلان کروا دیا، جس نے بھی قتل کیا ہو وہ مسجد نبوی میں آجائے اور اپنا معاملہ ہمارے حوالہ کرے۔

عہد نبوت میں عام طور پر لوگ بھولے بھالے سچے قسم کے ہوا کرتے تھے ایسے اعلان پر تپور ڈا کو سبھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا کرتے۔

کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی ایک نابینا صحابیؓ ہجوم سے بچتے بچتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور بلا کسی عُذر و حیلہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ! اس

عورت کو میں نے قتل کیا ہے وہ میری (امّ ولد) باندی تھی، میری خدمت گزار محبت کرنے والی، اُس سے میرے دو بچے بھی ہیں جو حُسن و جمال میں موتی جیسے ہیں، اس لئے مجھ کو اُس عورت سے فطرۃٴ محبت بھی تھی لیکن یا رسول اللہ! وہ آپ کے بارے میں بڑی گستاخ، دریدہ دہن تھی، ہمیشہ آپ کو بُرا بھلا کہا کرتی، میں اُس کو منع کرتا لیکن وہ باز نہ آتی جب اس کو سخت تنبیہ کرتا اور گستاخ ہو جاتی، یا رسول اللہ! میں نے اس کو بازار رکھنے کی ہر امکانی کوشش کی اُس نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔

یا رسول اللہ! گذشتہ رات (قتل والی رات) میں نے آپ کا کچھ تذکرہ کر دیا وہ اپنی خبیث عادت کے مطابق برس پڑی اور گالی گلوچ شروع کر دی میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئی۔

یا رسول اللہ! میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔

جب یہ بکواس کر کے سو گئی میں اُٹھا اور اپنا مغول (بڑا چھرا) لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر پوری قوت سے اُس پر بیٹھ گیا، چھرا انا فانا اسکی پشت سے باہر نکل گیا اور وہ اسی لمحہ دم توڑ گئی۔ *فِي النَّارِ وَالسَّقَرِ*۔

یا رسول اللہ! یہ خود میرا اپنا عمل ہے آپ جو فیصلہ فرما دیں میں حاضر ہوں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ حاضرین پر ایک اضطرابی کیفیت

لے غالباً یہ نصرانی یا یہودی مذہب تھی جس سے نکاحی تعلقات جائز ہیں۔

طاری ہو گئی، ابھی چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے تھے، جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ رب العالمین نے اُس بد زبان کا قتل جائز قرار دے دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا صحابی کو یہ خوشخبری سنائی۔

الَا إِشْهَدُ وَأَرَاتُ دَمَهَا هَـذِهِ۔ (الحديث)

آگاہ ہو جاؤ اس بد زبان کا قتل حلال ہو گیا۔ (نسائی شریف ص ۱۳۱)

## قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان :-

حضرت انسؓ کہتے ہیں قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض معروض کی، یا رسول اللہ! میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاں جہاد کا سامان نہیں ہے۔

آپ نے اس نوجوان کو مشورہ دیا تم فلاں صاحب کے ہاں جاؤ وہ جہاد میں شریک ہونے کی مکمل تیاری کر چکے تھے اچانک بیمار ہو گئے اُن کو میرا سلام کہہ دو اور وہ سامان جو انھوں نے جہاد کے لئے تیار کر رکھا تھا اپنے لئے حاصل کر لو۔

یہ نوجوان ان کے گھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام پہنچا دیا۔ بیمار مجاہد نے آپ کا پیام سُننے ہی اپنی بیوی سے کہا دیکھو! میرا جملہ سامان جہاد ان کے حوالہ کر دو اور اس کا خاص خیال رکھو کہ کوئی چیز بھی

لے اس واقعہ کے بعد یہ ابدی قانون بن گیا کہ شاہم رسول (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گوج کرنے والے) کو قتل کر دیا جائے۔ (أَعَادَ كَاللَّهِ مِنْهُ)

چھوٹے نہ پائے اگر تم نے اس سامان سے کچھ رکھ لیا تو اللہ کی قسم اس میں  
ہرگز برکت نہ ہوگی۔ (پھر اُس نیک بیوی نے بیمار مجاہد کا جملہ سامان  
حوالہ کر دیا)۔ اللہ اکبر (ابوداؤد ج ۲ ص ۶۵)

## حضرت عبد اللہ بن سلام رضی

مدینہ منورہ سے چند میل دور شہر خیبر میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد  
آباد تھی، ان کے یہاں بلند و بالا مضبوط قلعے اور تجارتی منڈیاں تھیں یہ لوگ  
دولت و ثروت میں ممتاز تھے، ان کے ایک عالم عبد اللہ بن سلام رضی اپنی قوم  
میں نہایت عزت و اکرام کا مقام رکھتے تھے یہ سابقہ آسمانی کتابوں (تورات،  
انجیل وغیرہ) کے بڑے عالم شمار کئے جاتے تھے ان کی ہدایات و تعلیمات پر  
پوری قوم اعتماد کرتی تھی۔

حضرت انس رضی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ  
سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ یہودی عالم آپ کی ملاقات  
کے لئے آئے اور آپ سے یہ پھرتین سوال کئے کہ ان کا جواب سوائے نبی و رسول  
اور کوئی نہیں دے سکتا، میں آپ سے وہ تین سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی۔

پہلا سوال: قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟

دومرا سوال: اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟

تیسرا سوال: وہ کیا سبب ہے کہ پیٹ کا پتھ کبھی باپ کے خاندان والوں  
کی شکل پر اور کبھی ماں کے خاندان والوں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے؟

اس مختصر وقت میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جوابات بتلا دیئے۔

آپ نے عبداللہ بن سلام سے فرمایا، ابھی ابھی جبریل امین آئے اور اللہ کی طرف سے جوابات دے گئے۔

عبداللہ بن سلام نے جبریل کا نام سنتے ہی کہا یہ تو فرشتوں میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔

(یہودی لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن اس لئے خیال کرتے ہیں کہ نبیوں کی مخالفت کرنے پر قوم بنی اسرائیل پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان کی قیادت جبریل امین نے کی تھی)۔

عبداللہ بن سلام کے اس فضول سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا اور فرمایا:

تمہارے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ قیامت کی پہلی علامت وہ ہولناک آگ ہوگی جو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ہانک کر مغرب کے آخری حصے تک پہنچا دے گی۔

دوسرے سوال کا جواب، اہل جنت کی پہلی غذا (جب وہ جنت میں داخل ہوں گے) مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، مرد کے پانی کا وہ مادہ (قطرہ) جس سے بچہ بنتا ہے اگر قوت و طاقت میں عورت کے مادہ پر سبقت کر جائے تو بچہ باپ کے خاندان والوں کی شکل پر بنتا ہے (جس میں باپ بھی شامل ہے) اور اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر سبقت کر جائے تو بچہ عورت

کے خاندان والوں کی شکل پر بنتا ہے (جسمیں ماں بھی شامل ہے)۔  
عبداللہ بن سلام نے یہ جوابات سنتے ہی فوری اعتراف کر لیا اور کہا  
بیشک آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں پھر اسلام قبول کر لیا۔ (کیونکہ یہ جوابات  
سابقہ آسمانی کتابوں میں اسی طرح درج تھے جس کے یہ عالم تھے)۔

اسکے بعد عرض کیا یا رسول اللہ! میری قوم یہود نہایت فسدی بہت دھرم  
والزام تراش قوم ہے اگر انھیں میرے اسلام قبول کر لینے کا علم ہو گیا وہ  
میرا انکار کر دیں گے اور بڑی بڑی تہمتیں لگائیں گے۔

یا رسول اللہ! بہتر یہی ہے کہ آپ میری غیر موجودگی میں ان سے میرے  
اخلاق و عادات، دین و دیانت وغیرہ دریافت فرمائیں، جب وہ مجھ پر اعتماد  
ظاہر کر دیں گے میں اسی وقت ان سب کو اسلام کی دعوت دیدوزگا۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تشریف لے گئے، یہودیوں نے  
آپ کی تشریف آوری کو اپنی کامیابی و عزت خیال کیا اور آپ کا استقبال  
کیا، آپ یہودیوں کی درس گاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام  
بھی درس گاہ کے ایک حجرے میں چھپے بیٹھے رہے۔ جب سب یہودی جمع ہو گئے  
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قائد و رہنما کے بارے میں دریافت کیا  
کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا انسان ہے؟

سب نے بڑملا کہا وہ تو ہمارا بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا، ہم میں  
سب سے بڑا انسان ہے۔ ہم اس کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرتے ہیں  
اور پورا پورا اعتماد بھی۔

اس مختصر سوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا۔



تمہارا کیا خیال ہے اگر عبد اللہ بن سلام مسلمان ہو جائے؟  
 سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ اگر وہ ایسا ہو جائے (یعنی ممکن  
 نہیں) اس شور و شغف میں اچانک عبد اللہ بن سلام اپنے حجرے سے نکل  
 آئے اور بلند آواز سے کہا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ-

بس یہ سُننا تھا کہ ساری قوم میں افراتفری ہو گئی اور سب کی زبانوں  
 پر یہ کلمات تھے:

”شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرِّنَا“ (بڑا بد اخلاق اور بڑے بد اخلاق کا بیٹا)  
 پھر بڑا بھلا کہتے ہوئے سب منتشر ہو گئے۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۶۹)

## حضرت ابو ذر غفاریؓ:-

راوی ابو حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے  
 ہم سے حضرت ابو ذر غفاریؓ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا جس کو  
 خود انھوں نے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے سُننا تھا۔

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ مجھ کو جب یہ خبر ملی کہ مکہ المکرمہ میں ایک  
 شخص نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اس اطلاع پر میں نے اپنے  
 بھائی کو مکہ المکرمہ روانہ کیا کہ اس نبی سے ملاقات کر کے حال معلوم کرے  
 چنانچہ میرے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے  
 بات چیت کر کے واپس ہوئے، اور مجھ کو بتایا کہ وہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے  
 نیکی کی ہدایت کرتا ہے برے کاموں سے منع کرتا ہے۔

میرے بھائی نے اس سے زائد اور کچھ نہ بتایا مجھ کو پورے طور پر تشفی نہ ہوئی، میں نے خود ارادہ کر لیا کہ خود کو چلنا چاہیے۔

چنانچہ میں ایک اجنبی مسافر بن کر مکہ المکرمہ پہنچا اور کسی سے بھی اُس نبی کے بارے میں دریافت نہیں کیا، بیت اللہ شریف میں قیام کر لیا اور کھانے پینے کا انتظام زمزم کا پانی قرار دے لیا۔

ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے قریب سے گزرے، مجھ کو دیکھ کر پوچھا کیا تم مسافر ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں مسافر ہوں!

پھر وہ اپنے گھر لے گئے اور میری ضیافت کی نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے اپنے آنے کی عرض بیان کی، دوسرے دن میں پھر بیت اللہ شریف آ گیا شام کو ان کا حسب معمول گزر ہوا، خیال کیا کہ مسافر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا، دریافت کیا تمہارا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ میں نے کہا، جی ہاں انتظار ہے۔

کہا، تو پھر رات کا کھانا بھی کھا لو، اپنے گھر لے گئے اور پیٹ بھر تو واضح کی، پھر پوچھا تمہارا اس شہر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟

میں نے نہایت رازداری میں کہا اگر آپ میرا راز ظاہر نہ کریں تو عرض کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اندیشہ نہ کرو کہو کیا بات ہے؟

میں نے کہا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک شخص نے اپنے نبی، ہونیکا اعلان کیا ہے میں خود تحقیق حال کے لئے آیا ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلو میں جس مکان میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا، البتہ درمیان راہ اگر

میں تم پر کسی بات کا اندیشہ یا خطرہ محسوس کروں تو اسی وقت میں اپنی چپل درست کرنے کے بہانے کسی دیوار کے قریب ٹھیر جاؤں گا تم اپنی راہ چلے جانا (یہ اس لئے تھا کہ اُس وقت مکہ المکرمہ میں اجنبیوں اور باہر کے مسافروں پر مشرکین مکہ کی سخت نگرانی تھی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات کرے اور نہ بات چیت)۔

الغرض میں حضرت علیؓ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہو گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے آپؐ سے گزارش کی کہ جو دین آپؐ لے آئے ہیں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ آپؐ نے ساری تفصیل بیان فرمادی۔

میں نے اُسی وقت اسلام قبول کر لیا۔

میرے اسلام قبول کرنے کے بعد آپؐ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر! اپنے اسلام کو یہاں ظاہر نہ کرو، اپنے وطن چلے جاؤ جب یہاں ہمارا غلبہ و شہرہ ہو گا اسی وقت آجانا۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جس ذات نے آپؐ کو حق دے کر بعوث کیا ہے کیا میں اُس کو ان مشرکین کے آگے پیش نہ کروں، ایسا کیونکر ممکن ہو گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزم و ارادے پر سکوت فرمایا (گویا اجازت دے دی) میں آپؐ کی مجلس سے اُٹھا، سیدھے خانہ کعبہ پہنچا وہاں مشرکین گپ شپ کرتے بیٹھے تھے، نہایت جرات و بے باکی سے اس طرح خطاب کیا:

اے قریشی سردارو! اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ  
وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

بس یہ کہنا تھا کہ سب مجھ پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے، یہ بددین آدمی ہے، صابی ہو گیا، پھر کیا تھا مجھ کو اس حد تک مارا کہ موت نظر آنے لگی۔

اس ہجوم میں حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب بھی تھے، انہوں نے مجھ کو پہچان لیا کہ یہ بنو غفار کا آدمی ہے، پھر ہجوم کرنے والوں سے یوں مخاطب ہوئے:

”ارے تم کو کیا ہو گیا ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ بنو غفار کا آدمی ہے، جو تمہاری تجارتی و سفری گزرگاہ پر واقع ہے، اس کے قتل کے بعد کیا تم اس راہ پر اپنی آمد و رفت جاری رکھ سکو گے؟“

ان فسادیلوں کو حضرت عباسؓ کی بات سمجھ میں آگئی، انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا، دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، میں نے خانہ کعبہ میں پھر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، قریشی جاہلوں نے میرا وہی حشر کیا جو کہ گذشتہ کل کیا تھا۔ حضرت عباسؓ پھر اڑے آئے اور وہی اندیشہ بیان کیا اور مجھ کو اپنی حفاظت میں لے کر اپنے گھر لائے، اس کے بعد میں نے اپنے وطن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ (بخاری ج ۱ ص ۴۹۹)

یہ واقعہ بیان کر کے حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں یہ بے میرے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔

## حضرت سعد بن معاذؓ

یہ جلیل القدر صحابی غزوہ خندق ماہ شوال ۳ء ہجری میں شہید ہوئے۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اصحاب رسول اس غزوہ میں بڑے صبر آزمایا حالات سے دوچار ہوئے ہیں۔ (غزوہ خندق کی تفصیل ہماری کتاب "ہدایت کے چراغ" جلد ۲، صفحہ ۵۷ پر دیکھی جائے)۔

اس غزوہ میں حضرت سعد بن معاذؓ کو قریش کے ایک مشرک حبان بن العرقہ نے نشانہ بنا کر آپ کی آنکھ پر تیر مارا تھا۔ حضرت سعد بن معاذؓ کو زخمی حالت میں مدینہ طیبہ منتقل کیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام کے لئے مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں خیمہ نصب کروا دیا تھا تاکہ آپ کو ہر وقت عیادت کرنیکی سہولت رہے آپ ہر آن انکی خبر گیری رکھتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ حضرت سعد بن معاذؓ کی ایک مناجات نقل کرتی ہیں جسکوانھوں نے زخمی حالت میں اپنے رب کے حضور پیش کیا ہے:

”الہی! آپ کو خوب معلوم ہے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اُس قوم سے جہاد کرنا ہے جس نے تیرے رسول کو اُس کے عزیز وطن سے شہر بدر کیا ہے اور اُسکو جھٹلایا بھی۔

الہی! میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان جنگ وجدال ختم کر دی ہے۔

الہی! اگر ان سے ابھی جنگ کرنی باقی ہے تو مجھکو اس زخم

سے نجات دے تاکہ میں تیری راہ میں اُن سے پھر جہاد کروں  
اور اگر آپ نے اُن سے ہماری جنگ بندی کر دی ہو تو میرے  
اس زخم کو تازہ کر دیجئے اور اس حادثہ میں مجھ کو موت بھی دیدیجئے  
تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور  
اتنا خون بہا کہ پڑوس کے خیمے تک چا پہنچا، کچھ ہی دیر بعد حضرت سعد بن معاذؓ  
شہید ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ (بخاری ج ۲ ص ۵۹۱)

**ملفوظ :-** یہ وہی شہید اعظم ہیں جن کی موت پر عرش الہی دُبل گیا،  
ان کے جلوس جنازہ میں شتر ہزار فرشتے شریک ہوئے ہیں جو اپنی پیدائش  
کے بعد پہلی بار زمین پر اُتارے گئے۔ (الحدیث)

## ثمامہ بن اُمّال :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر نجد کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تھا یہ  
لشکر فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ واپس آیا، شہر نجد کے قیدیوں میں شہر یمامہ کے سردار  
ثمامہ بن اُمّال کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اُن کو مسجد نبوی شریف کے ایک ستون  
سے باندھ دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ثمامہ کے پاس  
تشریف لائے اور فرمایا:

ثمامہ کیا حال ہے؟ کیا چاہتے ہو؟

کہا ٹھیک ہوں! اگر آپ قتل کر دیں تو قتل کا مستحق ہوں اور اگر احسان  
فرمائیں تو شکر گزاری کروں گا اور اگر آپ مال چاہیں تو بہ طرح کا مال حاضر ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا چلے گئے، دوسرے دن آپ نے تمام سے سابقہ سوالات دہرائے، تمام نے وہی جواب دیا آپ واپس ہو گئے، تیسرے دن آپ نے پھر وہی سوالات کئے، تمام نے کہا میرا وہی جواب ہے جو عرض کر چکا ہوں۔

آپ نے صحابہ سے فرمایا، تمام کو چھوڑ دو، چنانچہ انھیں آزاد کر دیا گیا۔ تمام مسجد نبوی کے سامنے والے باغ میں داخل ہوئے غسل کیا، پھر مسجد نبوی شریف میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آتے ہی اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ بلند آواز سے اقرار کیا اور آپ کے قریب ہو کر کہنے لگے۔

یا رسول اللہ! اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ سے زیادہ بُرا اور مکروہ چہرہ اور کوئی نہ تھا لیکن آج آپ کے رُخِ النور سے بہتر و محبوب چہرہ اور کوئی نہیں۔

یا رسول اللہ! آپ کے دین سے زیادہ بُرا دین اور کوئی نہ تھا لیکن آج آپ کا دین سارے ادیان سے زیادہ عزیز و پیارا ہے، یا رسول اللہ! آپ کا شہر مدینہ طیبہ میری نظروں میں بدترین شہر تھا لیکن آج دنیا جہاں کے تمام شہروں سے عزیز تر ہے۔

یا رسول اللہ! میں مکہ المکرمہ عمرہ کرنے جا رہا تھا آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو مبارکباد دی اور عمرہ ادا کرنے کا مشورہ عنایت فرمایا۔

ثمامہ بن اُثالہؓ مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہی ایک جاننے والے شخص نے انہیں طعنہ دیا اَصْبَوْتُ؟ کیا تم صابی ہو گئے؟ ثمامہؓ نے جواب دیا نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے۔  
(بخاری ج ۱ ص ۶۲۷)

**ملحوظہ :-** عرب کے مشرک اسلام قبول کرنے والوں کو صابی کہا کرتے تھے (گمراہ مذہب) جیسا کہ موجودہ دور میں کشرک و بدعت سے دُور رہنے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔  
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

## صلح حدیبیہ کے جائزہ :-

عہد نبوت کے تاریخی واقعات میں صلح حدیبیہ ایک بڑا حادثہ لیکن ”فتح مبین“ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ۱۰ھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی ایک منامی بشارت دی کہ ہم عمرہ ادا کرنے مکہ المکرمہ جائیں گے اس جانفزاد خوشخبری سے اصحاب رسولؐ کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق موجوں کی طرح اُبلنے لگا، عرصہ چھ سال سے یہ سعادت مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بند رکھی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا اعلان فرمادیا، ایک بڑی تعداد ساتھ ہو گئی، آپؐ ابھی درمیان راہ تھے کہ کسی جھوٹے نے اہل مکہ کو یہ خبر دیدی کہ مسلمان مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کیلئے مقام حدیبیہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اہل مکہ کا ایک سردار بدیل بن ورقہ خزاعی نے آپؐ کو باز رکھنے کیلئے



مقام حدیبیہ پہنچا اور آپ سے بات چیت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مطلع کیا یہ خبر جھوٹی ہے، ہم صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں تین دن بعد اپنے شہر مدینہ طیبہ واپس ہو جائیں گے۔

بُدیل بن ورقہ نے مکہ المکرمہ واپس جا کر قریش کو مطلع کیا لیکن قریشی سردار مطمئن نہ ہوئے۔ ایک دوسرے سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، حقیقی صورت حال میں معلوم کر لوں گا یہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے بات چیت کی، آپ نے وہی بات دہرا دی جو پہلے سردار سے کہی تھی۔

اس واقعہ کے نقل کرنے والے راوی کہتے ہیں، مشرک سردار عروہ بن مسعود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا اس درمیان وہ اصحاب رسول پر نظر جمائے ہوئے تھا، بعد میں وہ خود اس طرح بیان کرتا ہے۔

اللہ کی قسم! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی ناک بھی صاف کرتے ہوں تو ناک کی آلائش زمین پر گرنے سے پہلے ان کا کوئی نہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔

آپ جب کسی بات کا حکم دیتے تو سب کے سب دوڑ پڑتے۔  
آپ جب وضو کرتے تو آپ کے استعمال شدہ پانی پر سب ٹوٹ پڑتے اور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔

ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیتے پھر اپنے بدن پر مل لیتے۔  
آپ کی طرف نظر جما کر کوئی نہ دیکھتا ادب و احترام میں سب کی نظریں نیچی رہتیں گویا حاضر باش غلام ہیں۔

عروہ بن مسعود مکہ المکرمہ جا کر اپنی قوم سے اصحاب رسول کا آنکھوں دیکھا

حال بیان کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے قوم! میں نے روم و فارس و ایران کے بادشاہوں کے دربار اور اُنکے اہل دربار بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم! جو ادب و احترام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کرتے ہیں کسی بھی بادشاہ کا ایسا ادب و احترام نہیں دیکھا گیا۔ بہتر ہے ان لوگوں کو عمرہ کر لینے کی اجازت دیدی جائے لیکن قریش نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔  
 خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ (بخاری ج ۲ ص ۳۹۲)  
 (صلح حدیبیہ کی تفصیل "ہدایت کے چراغ" حصہ دوم ص ۵۸۶ مطالعہ کی جائے)

## عمیر بن وہبؓ

مکہ المکرمہ کا یہ مشرک سردار اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں شامل تھا، مکہ المکرمہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت ترین ایذا میں پہنچائیں تھی۔

جنگ بدر کے قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی تھا جو عام قیدیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا تھا، بدر کی شکست کے بعد ایک دن عمیر بن وہب اور اس کا دوست صفوان بن امیہ (مشہور مشرک سردار) حطیم کعبہ میں بیٹھے بدر کی شکست پر تبصرہ کر رہے تھے (جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس میں کفر کی طاقت پاش پاش ہو گئی)۔

عمیر بن وہب نے اپنے دوست صفوان بن امیہ سے کہا، میاں اب زندگی کا مزہ نہ رہا، جنگ بدر میں قریش کے نامی گرامی تمام سرداروں کی ہلاکت کے بعد زندگی بے لطف ہو گئی۔

اگر میرے ذمے قرض نہ ہوتا اور میرے بچوں کی کفالت کا کوئی انتظام ہو جاتا تو میں ابھی مدینہ جا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرتا، عمیر کی اس طوطا چشمی پر صفوان بہت خوش ہوا، کہنے لگا تیرا قرض اور تیرے اہل و عیال کا خرچ میرے ذمے ہے اگر تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر آئے؟ یہ ضمانت سنتے ہی عمیر کی انتقامی رگ پھر تک اٹھی ویسے بھی عمیر کا بیٹا قیدیوں میں شامل تھا فوری اٹھا اور ایک زہراؤد تلوار لیکر مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے قریب سیدنا عمر الفاروقؓ نے اس کو دیکھتے ہی تاز لیا کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آ رہا ہے، آگے بڑھ کر اس کی تلوار چھین لی اور کھینچتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں لے آئے؟ آپ نے فرمایا، اے عمرؓ اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خود عمیر سے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟

عمیر نے جواب دیا، کچھ نہیں اپنے بیٹے (دوہب) کو چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے ہاں قیدیوں میں شامل ہے۔

آپ نے فرمایا سچ بولو کیا تم صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے آئے ہو؟ عمیر نے وہی جواب دیا، جی ہاں اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اور صفوان نے حطیم کعبہ میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا؟

عمیر پر اس سوال سے سکتہ طاری ہو گیا، سنبھل کر کہا میں نے کیا مشورہ کیا ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے میرے قتل کرنے کا ذمہ لیا تھا اس شرط پر

کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری اور تیرا قرض ادا کر دیگا، کیا یہ معاہدہ تم دونوں میں نہیں ہوا؟

عمیرہ پر لرزہ طاری ہو گیا، فوری اعتراف کر لیا اور کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ ہی نے خبر دی ہے، اس واقعہ کا علم سوائے میرے اور صفوان کے کسی اور کو نہ تھا۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اپنے اس بھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی (بیٹے) کو اس کے حوالہ کر دو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلقِ عظیم کو دیکھ کر عمیرہ پُر اعتماد بوجہ میں کہنے لگا۔

یا رسول اللہ! میں نے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، مسلمانوں کو ہر طرح ستایا، اب آپ اجازت دیجئے مکہ المکرمہ جا کر اسلام کی تبلیغ کروں اور آپ کے دشمنوں کو ویسا ہی ستاؤں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کے دوستوں کو ستایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیرہ کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عمیرہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے،

اُدھر مکہ المکرمہ میں صفوان بن امیہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا، لوگو! چند ہی روز بعد میں تم کو ایسی خوشخبری دوں گا جو تم کو جنگِ بدر کا صدمہ بھلا دے۔

اتنے میں مدینہ طیبہ سے عمیر بن وہبؓ کے اسلام قبول کر لینے کی خبر پہنچی، صفوان آگ بگول ہو گیا اور قسم کھانی کہ عمیرؓ سے نہ بات کرے گا اور نہ اس کے اہل و عیال کی کفالت، نہ اس کا قرض ادا کرے گا۔

عمیر بن وہبؓ مکہ المکرمہ پہنچے اور تبلیغ اسلام میں مشغول ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے، پھر حضرت عمیرؓ نے کچھ طاقت بھی جمع کر لی اور اسلام کے دشمنوں کو خوب خوب پریشان کیا۔

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰٓئِ وَالْاٰخِرَةِ۔

## جنگِ بدر کے چودہ شہید

### ۱: سیدنا عبیدہ بن الحارث مہاجر می رضی

جنگِ بدر میں ایک مشرک کے اچانک وار پر ان کا پیر جُدا ہو گیا تھا۔ اختتامِ جنگ کے بعد اسی حالت میں ان کو مدینہ طیبہ لے جایا جا رہا تھا۔ درمیانِ راہ مقامِ صفراء (موجودہ نام حمرآر طریقِ جدہ / مدینہ) میں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

اس حادثے کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کیساتھ اثنائے سفر مقامِ صفراء میں قیام فرمایا تھا، صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں مشک کی خوشبو مہک رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تعجب کیا ہے یہاں ابو موایہ (عبیدہ بن الحارث) کی قبر ہے۔ لا الہ الا اللہ (اصابح ص ۴۲۵)

### ۲: سیدنا عمیر بن ابی وقاص مہاجر می رضی

یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بدر جانے کے لئے صحابہ جمع ہو رہے تھے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتا پھر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اُتر تھک کو کیا ہو گیا؟

کہا، اندیشہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ لیں تو کم عمر خیال فرما کر واپس کر دیں، لیکن میں بہر حال بدر جانا چاہتا ہوں شاید اللہ شہادت نصیب کر دے۔

حضرت سعدؓ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو میرے چھوٹے بھائی عمیرؓ کو بھی پیش کیا گیا، آپ نے عمیرؓ کو کم عمری کی وجہ سے واپس ہو جانے کا حکم دے دیا۔

یہ سن کر عمیرؓ رو پڑا، آپ نے اُس کا ذوق و شوق دیکھ کر شرکت کی اجازت دے دی، بالآخر عمیرؓ جنگ بدر کے مجاہدین میں شریک ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا اس وقت عمیرؓ کی عمر سولہ سال تھی۔ رضی اللہ عنہ (اصحاب ج ۲ ص ۳۵)

### ۳: سیدنا ذوالشمالین بن عبد عمر مہاجریؓ

امام الحدیث ابن شہاب زہریؒ اور مشہور اسلامی مؤرخ ابن سعدؒ فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک ہی صحابی کے دو نام ہیں لیکن اور محدثین لکھتے ہیں کہ ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باحیات تھے، لہذا دونوں علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ رضی اللہ عنہ

کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے کچھ چھوٹا تھا۔  
تغلیباً ذوالشمالین کہا گیا۔

### ۴: سیدنا عاقل بن البکیر مہاجر می :-

اسلام کے سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دار ارقم میں (جہاں سیدنا عمرؓ کی بہن و بہنوئی حضرت خبابؓ رہا کرتے تھے) مشرف باسلام ہوئے۔ ان کا پہلا نام غافل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام عاقل بن بکیر کر دیا۔ جنگ بدر میں شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر چونتیس سال تھی۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### ۵: سیدنا مہجع بن صالح مہاجر می :-

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیبؓ سے منقول ہے، جنگ بدر میں جب قتل و قتال عروج پر تھا حضرت مہجعؓ کی زبان پر یہ کلمات تھے جس کو وہ بار بار دہرا رہے تھے:

أَنَا مَهْجَعٌ وَرَأَى مَرْيَتَ أَرْجَعُ، میں مہجع ہوں اپنے رب کی جانب لوٹنے والا۔ بدر میں شہید ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### ۶: سیدنا صفوان بن بیضار مہاجر می :-

(وَفِي رِوَايَةٍ صَفْوَانَ بْنِ وَهَبٍ)

غزوہ بدر میں شریک ہوئے، طعیمہ بن عدی مشرک کے ہاتھ شہید

ہوئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ



## ۶: سیدنا سعد بن خنیسہ انصاری رضی

حضرت سعد بن خنیسہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خود بھی صحابی ہیں ان کے والد خنیسہ انصاری بھی صحابی ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں باپ بیٹے شہید بھی ہوئے اس لئے ان کو ”صحابی بن صحابی“ شہید بن شہید کہا جاتا ہے۔

صاحبزادے حضرت سعد بن خنیسہ غزوہ بدر میں اور باپ حضرت خنیسہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم

حضرت سعد بن خنیسہ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو عمر کا نصیب (نگراں) بنایا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب کا حکم دیا تھا (اس تعاقب کا انجام غزوہ بدر کی شکل میں ظاہر ہوا) حضرت سعد کے والد حضرت خنیسہ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا تھا۔ بیٹا ہم میں سے ایک کا بچوں اور عورتوں کی حفاظت و خدمت کے لئے گھر رہنا ضروری ہے۔ بیٹا تم ایثار کرو، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر جانے کی اجازت دو اور تم گھر کی نگراںی کے لئے ٹھہر جاؤ؟

صاحبزادے سعد نے ادب و احترام سے معذرت کی اور یہ عرض کیا:

لَوْ كَانَتْ غَيْرَ الْجَنَّةِ لِأَشْرَفْتُكَ بِهَا رِحْتِ أَرْجُو الشَّهَادَةَ فِي وَجْهِي هَذَا.

ابا جان! جنت کے سوا اور کوئی معاملہ ہوتا تو میں ضرور ایثار کرتا اور آپ کو اپنے نفس پر ترجیح دیتا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر

میں اپنے شہید ہونے کی قوسی اُمید رکھتا ہوں براہ کرم مجھ کو نہ روکیں۔  
 باپ حضرت خیشم نے بیٹے کی اس تفہیم پر اتفاق نہ کیا آخر باپ بیٹے  
 دونوں میں قرعہ اندازی ہوئی۔ (قرعہ اندازی اگرچہ شرعی عمل نہیں لیکن اختلاف  
 و نزاع ختم کرنے کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے) بہر حال قرعہ اندازی میں بیٹے  
 حضرت سعدؓ کا نام نکلا، باپ نے اتفاق کر لیا اور گھر کی نگرانی کے لئے ٹھہر گئے۔  
 صاحبزادے حضرت سعدؓ شاداں و فرحاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر  
 کی جانب روانہ ہو گئے۔

معرکہ بدر میں نہایت بے جگری سے لڑے بالآخر شہید ہو گئے اور  
 اپنی مُراد پالی۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## ۸: سیدنا عمیر بن الحُمام انصاریؓ

کتاب صحیح مسلم شریف میں حضرت انسؓ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے دن ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! دوڑو اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے“  
 حضرت عمیر بن الحُمامؓ نے بے ساختہ نَحَّ نَحَّ (واہ واہ) کہنا شروع کر دیا۔  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیرؓ سے فرمایا، اے عمیرؓ  
 تجھ کو کیا ہو گیا؟

حضرت عمیرؓ نے کہا، یا رسول اللہ! کچھ نہیں صرف یہی اُمید ہے کہ میں  
 جنت والوں میں شامل ہو جاؤں،

آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ أَهْلِهَا، بیشک تو اہل جنت میں شامل ہے۔

اس وقت حضرت عمیر رضی اللہ عنہ شہادت بھوک سے خشک کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں اور کہنے لگے اگر میں انکے کھانے میں مشغول رہا تو پھر زندگی بڑی طویل ہوگی فوراً جہاد میں مشغول ہو گئے اور کچھ ہی دیر بعد عام شہادت نوش کیا۔ فسقاہ اللہ من أنہما الجنة (اصابیح ج ۲ ص ۳۱)

۹: سیدنا مبشر بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ۔

۱۰: سیدنا یزید بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ۔

یہ دونوں صحابی بھی غزوہ بدر کے شہکار میں شامل ہیں اور اسی غزوہ میں شہید بھی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم

۱۱: سیدنا رافع بن معلی انصاری رضی اللہ عنہ۔

یہ صحابی بھی بدر میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

۱۲: سیدنا حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ۔

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی اور شہید ابن شہید ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور ان کے والد حضرت سراقہ بن الحارث رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مدینہ طیبہ واپس ہوئے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ زینب بنت نضر رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور اس طرح عرض معروض کیں:

یا رسول اللہ! آپ کو خوب معلوم ہے مجھ کو اپنے بیٹے حارثؓ سے کس قدر  
محبت تھی، یا رسول اللہ! اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اپنے  
رب سے اپنے لئے اجر و ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر دوسری صورت  
ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گی؟ (آہ و فغاں وغیرہ)

آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو دیوانی ہو گئی؟ تیسرا بیٹا تو جنت الفردوس  
میں مقیم ہو چکا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بخاری و مسلم)

۱۳: سیدنا عوف بن حارث انصاریؓ:-

۱۴: سیدنا معوذ بن حارث انصاریؓ:-

یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، دونوں ہی بدر کے شہداء میں شامل ہیں بڑے  
بھائی عوف بن حارثؓ نے میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  
دریافت کیا یا رسول اللہ بندے کا کونسا عمل رب العالمین کو ہنساتا ہے (خوش  
کرتا ہے)؟

آپ نے ارشاد فرمایا، بندے کا بے خوف ہو کر دشمن کے خون سے  
اپنا ہاتھ رنگ لینا۔

عوف بن حارثؓ نے یہ سنتے ہی اپنا آہنی جنگی لباس اتار پھینکا اور ہلکے  
پھلکے ہو کر دشمنوں کی صف میں گھس پڑے اور ایسا معرکہ انجام دیا کہ دشمن  
حیران تھے بالآخر شہید ہو گئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

دوسرے بھائی معوذ بن حارثؓ یہ کم سن نوجوان بھی بدر میں شہید  
ہوئے، جنگ بدر میں جن دو کم عمر لڑکوں نے قریش کے سب سے بڑے سردار

فرعون ثانی ابوجہل کو ڈھیر کر دیا تھا، ان میں ایک ہی معوذ بن حارث انصاریؓ ہیں اور دوسرے ان کے بھائی معاذ بن حارثؓ ہیں۔

**ملفوظ:**۔ ان چودہ شہیدوں میں تیرہ شہید میدان بدر کے ایک مختصر احاطے میں آسودہ خواب میں جو آجکل قدیم شاہراہ جدہ / مدینہ کے درمیان واقع ہے، البتہ ایک شہید حضرت عبیدہ بن الحارثؓ بمقام صفراء (بدر / مدینہ کے درمیان) میں آرام فرما ہیں۔ زخمی حالت میں تھے درمیان راہ انتقال کر گئے جبکہ انھیں مدینہ طیبہ لے جایا جا رہا تھا۔

## سیدہ عفرارہؓ:

یہ وہ مبارک فدائی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اسلام پر جان دینا زندگی کا عزیز ترین مقصد قرار دے لیا تھا، ان کے پہلے مہوم شوہر سے تین بیٹے عوف بن حارثؓ، معاذ بن حارثؓ، معوذ بن حارثؓ تھے۔ دوسرے شوہر سے چار بیٹے ایاسؓ، عاقلؓ، خالدؓ، عامرؓ تھے۔

سیدہ عفرارہؓ وہ واحد خوش نصیب خاتون ہیں جن کے ساتوں بیٹے جنگ بدر میں شریک رہے ہیں۔

غزوات نبوی میں یہ واحد غزوہ ہے جس کے تمام شرکار کو جنت کی بشارت دے دی گئی، یہ جملہ تین سو تیرہ اصحاب تھے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

## بدر کے دو کھسن مجاہد معاذؓ، معوذہؓ

جنگ بدر میں جہاں زور آزما، تجربہ کار، سن رسیدہ حضرات نے شرکت کی وہاں کم سن بچوں نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے، ان میں خصوصیت سے دو بچوں کا تذکرہ تاریخ شجاعت و جوانمردی میں ذوق و شوق سے پڑھا گیا۔ یہ دو کھسن بچے معاذؓ اور معوذہؓ دونوں بھائی میدان بدر میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے آزد بازو تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ جب میری نظر ان بچوں پر پڑی تو خیال آیا کہ ایسے پرخطر جنگی موقعہ پر کوئی جوان مضبوط آدمی قریب ہوتا جو ضرورت پر مدد کرتا، یہ بچے کیا مدد کریں گے جبکہ وہ خود مدد کے محتاج ہیں، میں اسی خیال میں تھا کہ ایک لڑکے معاذؓ نے آہستہ سے کہا۔

بچا جان! دشمن کی صفوں میں ابو جہل کون ہے؟

میں نے کہا بیٹا ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟

لڑکے نے جواب دیا، مجھ کو یہ معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت ترین گستاخیاں کرتا رہا ہے اور آپ کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے اگر میں ابو جہل کو دیکھ لوں تو اسکو قتل کر ڈالوں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں، بچے کی اس جرأت و بیباکی پر میرا وہ وسوسہ دور ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا دیکھو! وہ ابو جہل ہے۔

بس اتنا سنا ہی تھا دونوں بچے مُعاذِ رِضَہ و مُعوذِ رِضَہ باز و شکرے کی طرح لپک پڑے اور انا فانا ابو جہل پر ایسی بے جگری سے وار کر دیا کہ وہ سنبھل نہ پایا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گیا، نہ اُس کی حیثیت و قوت کام آئی اور اُس کی حفاظت کرینوالے کام آئے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کا دشمن خاک و خون میں لت پت ہو گیا۔

ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے (جو اس وقت مسلمان نہ تھا) اپنے باپ کی حمایت میں مُعاذِ رِضَہ کے شانے پر اس زور سے وار کیا کہ مُعاذِ رِضَہ کا پورا ہاتھ کٹ گیا لیکن کاندھے سے لٹکتا رہا۔

کم سن مُعاذِ رِضَہ شام تک اسی حالت میں مقابلہ کرتے رہے۔ ہاتھ کے مسلسل لٹکتے رہنے سے تکلیف ناقابلِ برداشت ہو گئی اور تیزی پھرتی میں سُرِق آنے لگا تو ہاتھ اپنے قدم کے نیچے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ ہاتھ کاندھے سے جدا ہو گیا۔

اپنا کٹا ہوا ہاتھ پھینک کر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہو گئی۔

حضرت مُعاذِ رِضَہ اسی یک دستی حالت میں سیدنا عثمان غنیؓ کی خلافت تک زندہ رہے ہیں، البتہ ان کے دوسرے بھائی مُعوذِ رِضَہ جنگِ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

## غزوة اُحد کے چند جابِ نثار

اُحد مدینہ منہ طیبہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جو مسجد نبوی شریف سے بجانب جنوب تقریباً دو میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال ۲ھ ہجری مطابق ماہ جنوری ۶۲۵ء میں اسلام و کفر کا دوسرا معرکہ پیش آیا۔ اس غزوة کی تفصیل قرآن حکیم، کتب احادیث اور تاریخ اسلامی کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ (ہماری کتاب "ہدایت کے چراغ" جلد ۲، ص ۵۳۶ پر یہ تفصیلات درج ہیں)۔

جنگ بدر ۲ھ ہجری میں قریش مکہ کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی اور جس میں ان کے نامی گرامی سردار مارے گئے تھے اور ایک بڑی تعداد قید بھی ہوئی، یہ ایسی شرمناک شکست تھی جس سے مشرکین مکہ کا ہر گھر سو گوار تھا، اس طرح قریش کے دوست قبائل بھی نوم خواں تھے۔

ابوسفیان نے جو قریش کا صدر الصدور تھا یہ قسم کھالی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا نہ غسل کروں گا نہ اپنا لباس تبدیل کروں گا، (زمانہ جاہلیت کا ستر پھر اپن ایسے ہی ہوا کرتا تھا)۔

ابو جہل کے جوان سال بیٹے حکم نے بن ابی جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقسیم مری اور قریشی عورتوں کی نوم خوانی و طعنہ زنی مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن مقابلہ کے لئے ماحول پیدا کر رہی تھیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح جنگ بدر میں



مسلمانوں کو سر بلندی و فیصلہ کن غلبہ ہوا اسی طرح اہل مکہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پر سر بلندی ہو جائے۔

خاص طور پر قریش کے شتر نامی گرامی سرداروں کے خون کا بھر پور بدلہ مل جائے جو جنگِ بدر میں مارے گئے تھے، چنانچہ ابو سفیان اپنی صدارت میں مکہ کے تین ہزار مسیح سوراؤں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کے قریب جبلِ اُحد کے مقابل خیمہ زن ہو گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناگہانی صورت پر اپنے اصحاب کے مشورہ کیا، عمر رسیدہ اصحاب نے تو یہ مشورہ دیا کہ اندرونِ شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے تاکہ ہمیں شہر کی بھر پور سہولت و طاقت حاصل رہے۔ نوجوان اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر نکل کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن پریشان ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مشورے سن کر سکوت اختیار فرمایا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔

عمر رسیدہ صحابہ نے اپنے چھوٹوں کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رُحمان کے خلاف رائے دی اور آپ کو فکر مند کر دیا۔

کچھ ہی دیر بعد آپ حجرے سے باہر تشریف لائے تو جنگی لباس زیب تن تھا، نوجوان صحابہ کو ندامت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے بڑوں نے جو مشورہ دیا تھا اسی کو قبول فرمائیں (یعنی اندرونِ شہر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کیا جائے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  
 ”کسی نبی کا یہ مزاج نہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں ہتھیار  
 اٹھالے پھر بغیر مقابلہ ہتھیار ڈال دے، اب اللہ کا نام لے کر  
 میدان کی طرف چلو۔“

چنانچہ آپ مدینہ طیبہ سے جبل اُحد پہنچے، سات سو مخلصین فداکار صحابہؓ  
 آپ کے ساتھ تھے۔

ان جانثاران اُحد کے چند واقعات مطالعہ کیجئے۔

### ۱: کمسن رافع بن خدیج اور سمرۃ بن جندبؓ

جبل اُحد کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکرِ اسلام کا جائزہ  
 لیا اس میں آگے آگے چند کم سن بچے بھی تھے، آپ نے انہیں شکر سے  
 علیحدہ کیا اور واپس ہو جانے کا حکم دیا۔

رافع بن خدیج جو کم عمر تھے یہ صورت حال دیکھ کر مجاہدین کی صف میں  
 بچوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد نظر آئیں، چنانچہ ان کی یہ فداکارانہ تدبیر  
 کامیاب ہو گئی اور وہ مجاہدین میں شریک کر لئے گئے۔

لیکن انہی کے ایک ہم عمر سمرۃ بن جندبؓ کو جب مدینہ طیبہ واپس جانیکا  
 حکم ملا تو وہ بے ساختہ رو پڑے، اسی حالت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔

پہنچتے ہی سمرۃ نے عرض کرنا شروع کیا:

یا رسول اللہ! اگر رافعؓ اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے تو

میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں؟ جبکہ میں قوت و طاقت میں رافعؓ سے بہتر ہوں۔ میں نے بارہا رافعؓ کو کشتی میں بچھاڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہؓ کی اولوالعزمی دیکھ کر دونوں میں کشتی کروائی، سمرہؓ نے انا فانا رافعؓ کو چپت کر دیا۔ اس طرح سمرہؓ بھی مجاہدین میں شریک کر لئے گئے۔ (طبری ج ۲ ص ۱۲)

## ۲: حضرت ابو دجانہؓ

غزوہ اُحد میں آغاز جنگ سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لیکر ارشاد فرمایا:

مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهَا -

کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟

یہ سنتے ہی مجاہدین میں بہت سے ہاتھ اس سعادت کو لینے کیلئے اٹھ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا، اتنے میں ابو دجانہؓ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! اس تلوار کا حق کیا ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے اسلام کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے (یا ٹوٹ جائے)۔

حضرت ابو دجانہؓ نے کہا، یا رسول اللہ! میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔

آپ نے وہ تلوار ابو دجانہؓ کو دے دی۔ (صحیح مسلم و مسند احمد)

حضرت ابو دجانہؓ بڑے دلیر و نہایت غیر آدمی تھے، انھوں نے اپنا

سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھ لیا، پھر اکڑتے مکڑتے، ناز و مستی سے پیر پٹکتے مشرکین کی صفوں کی جانب چل پڑے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انھیں اس حالتِ مستانہ میں دیکھا تو صحابہؓ سے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں مگر ایسے وقت (یعنی میدانِ جہاد میں یہ چال اللہ کو بہت پسند ہے)۔

حضرت ابو دُجانہ رضی اللہ عنہ مشرکین کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے چلے جا رہے تھے جو بھی مقابل ہوتا اسکی لاش زمین پر نظر آتی، یہاں تک کہ ابوسفیان (سالارِ مشرکین) کی بیوی ہندہ سامنے آگئی، حضرت ابو دُجانہ نے اس پر تلوار اٹھائی تھی کہ فوراً ہاتھ روک لیا۔

بعد میں کہا کرتے تھے کہ مجھکو یہ بات اچھی نہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کو ایک بے طاقت عورت پر چلا دوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ایک موقع پر جب دشمنوں کے بے شمار تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے لگے حضرت ابو دُجانہ رضی اللہ عنہ سپر بنکر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر پتیر آرہے تھے مگر ابو دُجانہ رضی اللہ عنہ حرکت نہیں کرتے کہ کہیں کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، ہر تیر کو اپنی آہنی ڈھال سے روک لیا کرتے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۱۶)

## ۳: سیدنا حمزہ رضی

جنگ اُحد باقاعدہ شروع ہو گئی سیدنا حمزہؓ کے دلیرانہ اور پے در پے حملوں سے مشرکین کی صفوں میں خوف و انتشار پھیلنے لگا، جس پر بھی تلوار اٹھاتے اس کا جسم موت کے گھاٹ اُترتا، جس طرف بھی نکل جاتے میدان خالی خالی ہو جاتا، مشرکین پر اللہ کا قہر و غضب تھا جو سیدنا حمزہؓ کے بال بال سے پھوٹ رہا تھا۔

مشرکین کی منظم و مضبوط صفیں درہم برہم ہو گئیں، سیدنا حمزہؓ جنگل کے شیر کی طرح چار جانب گھوم رہے تھے، وحشی بن حرب (کافر غلام) سیدنا حمزہؓ کی تاک میں پھپھتا پھپھاتا پھر رہا تھا ایک موقع پر وہ سیدنا حمزہؓ کی تاک میں ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، سیدنا حمزہؓ اپنی کارروائی میں ادھر سے گزر ہی رہے تھے کہ بزدل وحشی نے پیچھے سے نیزہ مار دیا جو اُپر پار ہو گیا، سیدنا حمزہؓ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔

سیدنا حمزہؓ کی وفات کے بعد بزدل مشرکوں نے اپنا جھوٹا بغض و بُخار اُتارا، سیدنا حمزہؓ کی لاش کو بُری طرح بگاڑ دیا، جسم پاک کے سارے اعضاء الگ الگ کر دیئے، آخر میں ابوسفیان کی کافرہ بیوی بندہ نے بعد اقامت جنگ بچے بچے جسم سے سینہ پاک چاک کر کے قلب پاک کی بے حرمتی کی۔

فَلَعَنَهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا سیدنا حمزہؓ کی یہ ناگفتنی حالت دیکھی دل بھر آیا، آنسو نکل پڑے، بدن کے ٹکڑوں سے خطاب کیا:

”پیارے چچا! تم پر اللہ کی رحمت ہو جہاں تک مجھ کو علم ہے آپ بڑے نیک و صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے، پیارے چچا! اگر صفینہ (سیدنا حمزہؓ کی بہن) آپ کی یہ مسخ کردہ حالت دیکھ کر غم و دکھ سے بے ہوش نہ ہو جاتی تو میں جسم کے ان ٹکڑوں کو میدان اُحد میں اسی طرح چھوڑ جاتا تاکہ جنگل کے درندے پرندے ان کو اپنا اپنا لقمہ بنا لیں پھر قیامت کے دن پوری شان و آن سے ہر جانور کے پیٹ سے آپ کا حشر ہوتا۔ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“  
معجم طبرانی کی روایت ہے، آپ نے سیدنا حمزہؓ کو ”سید الشہداء“ کا خطاب عنایت کیا۔

سیدنا حمزہؓ قیامت تک سارے شہیدوں کے سردار رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ

### ۴: سیدنا حنظلہؓ

معرکہ اُحد میں حضرت حنظلہؓ پوری بے جگری و بے خوفی سے جان کی پروا کئے بغیر دشمنوں کی صفوں میں پھیل و سرا سمیگی پھیلا رہے تھے۔  
حضرت حنظلہؓ کی دلیری و شجاعت کا یہ حال تھا کہ مشرکوں کے سردار ابوسفیان کے (جو اس معرکہ میں کمانڈر انچیف کی حیثیت سے اپنے محافظوں کی سخت ترین حفاظت میں محصور تھا) اُنّا فانا قریب ہو گئے لپک کر حملہ کر رہے تھے کہ ابوسفیان کا ایک محافظ شداد بن اوس نے آپ پر حملہ کر دیا جس سے حضرت حنظلہؓ شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ  
شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”میں نے دیکھا کہ حنظلہ زہ کی لاش کو بادلوں میں فرشتے غسل

دے رہے ہیں۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ جب اُن کی لاش اٹھائی گئی تو جسم پاک سے تازہ شفاف پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت حنظلہ زہ کو ”غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ“ کہا جاتا ہے۔ (وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا)۔ (روض الانف ج ۲ ص ۱۳۲)

## ۵: سیدنا مصعب بن عمیرؓ:

غزوہ اُحد میں پچاسؓ افراد کی ایک جماعت کو پہاڑی کی ایک گھاٹی پر متعین کر دیا گیا تھا تاکہ اس راستے سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، اس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیرؓ تھے۔

دورانِ جنگ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دشمن کے پیرا کھڑ گئے اور وہ دائیں بائیں بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی عورتیں جو اس جنگ میں ہاتھ بٹانے آئیں تھیں بدحواس ہو کر پہاڑیوں کی جانب دوڑ پڑیں، مسلم مجاہدین دشمنوں کا مالِ غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔

فتح مندی کی یہ حالت دیکھ کر گھاٹی کے محافظ بھی نیچے اتر آئے امیر جماعت نے اگرچہ شدت سے منع کیا لیکن عجلت پسند حضرات آخر نکل گئے صرف دسؓ بارہ مجاہدین امیر کے ساتھ رہ گئے۔

خالد بن ولید جو مشرکین مکہ کی صفوں میں تھے درہ خالی دیکھ کر گھائی طحجانب چڑھ آئے اور اُن دسؓ حضرات پر حملہ آور ہو کر انہیں شہید کر دیا، پھر نیچے میدان میں اتر کر مسلمانوں پر جو مالِ غنیمت جمع کر رہے تھے ٹوٹ پڑے، اس

ناگہانی و یکبارگی حملہ سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، بہت سے مجاہدین تو ایسے تھے کہ انھوں نے اپنا اسلحہ بھی اتار دیا تھا اور بعض بالکل مطمئن و بے اندیشہ ہو گئے تھے۔

مسلم فوج کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگئے، سیدنا مصعب بن عمیرؓ نے بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا بالآخر شہید ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی علم سیدنا علیؓ کے سپرد فرمایا، سیدنا علیؓ کی حفاظت کے لئے آپ کے سامنے آگئے چونکہ حضرت مصعب بن عمیرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، شیطان نے یہ افواہ اڑادی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شہید ہو گئے۔

اس شیطانی افواہ نے مسلمانوں میں مزید اضطراب پیدا کر دیا، مسلمان بدحواس ہو گئے۔ اسی بدحواسی و انتشار میں دوست دشمن کا امتیاز باقی نہ رہا اور آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلنے لگیں۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ الیمانؓ کے مسلمان والد حضرت یمانؓ اسی اضطرابی حالت میں ایک مسلمان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ (بخاری، غزوہ اُحد)

آخر اللہ کی نصرت و تائید شامل حال ہوئی، چند ثابت قدم صحابہؓ نے منتشر مجاہدین کو آواز دی:

مسلمانو! اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر صحیح ہے تو اب زندہ رہ کر کیا کریں، آؤ! جنگ کا فیصلہ کریں۔

کچھ ہی دیر نہ لگی صحابہ چار جانب سے پروانہ وار جمع ہو گئے، پھر میدان



مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، مشرکین بھاگ کھڑے ہو گئے، شکست فتحمدی میں تبدیل ہو گئی، اسکے بعد میدان اُحد مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔

## ۶: سات رفیقِ جنت :-

یہ سات انصاری صحابہؓ تھے جنہوں نے میدان اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ”رفیقِ جنت“ ہونے کی سند لی ہے۔ ان کے اسماء گرامی مورخ ابن سعدؒ نے نقل کئے ہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے ایک روایت منقول ہے۔ میدان اُحد میں ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا ایسا شدید دباؤ بڑھ گیا کہ آپؐ نے بلند آواز سے منتشر صحابہ کو خطاب کیا:

”کوئی ہے جو ان مشرکین کو مجھ سے دُور کر دے؟ اور جنت میں میسرار رفیق بنے؟“

اہل مدینہ کے سات انصاری فداکار جو اُس وقت آپؐ کے قریب تھے باری باری سے آپؐ کے سامنے آئے اور مشرکین سے لڑ کر شہید ہو گئے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۷)

ان ساتوں میں حضرت زیاد بن السننؓ کو یہ شرف ملا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زخمی ہو کر گر پڑے، آپؐ نے فرمایا، ان کو میرے قریب لاؤ چنانچہ ان کو آپؐ کے قریب کر دیا گیا حضرت زیاد بن السننؓ نے اپنا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور انا فانا رخصت ہو گئے رضی اللہ عنہ۔

(ابن ہشام ج ۲ ص ۸۴)

## ۷: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی

اُحد کے گھمسان معرکہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دشمنوں کی صفوں پر ایک ہزار سے زائد تیر پھینکے ہیں۔ اللہ اکبر

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیا اور مشرکین کے جس قدر بھی تیر آتے ان کو اپنے آہنی ہاتھ دسینے سے روک لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش کے تیر نکال نکال کر حضرت سعد کے آگے رکھ دیا کرتے اور یہ فرماتے:

إِنَّمَا مَرَدَاكَ أَرْجُو وَأُرْفِقُ تِيرَ حَيْلَانِ تَجْهَرُ بِرَمِيْرِ مَا لِي بَابِ  
قَتْرِيَانِ هُوں۔ (بخاری، غزوة اُحد ص ۵۸۱)

سیدنا علی رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے کلمات سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی اور کے لئے نہیں سنے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، اسی معرکہ اُحد میں میرا ایک کافر بھائی عتبہ بن ابی وقاص کافروں کے ساتھ لڑنے آیا تھا اس کافر نے موقعہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا جس سے آپ کا دندان مبارک ٹوٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ پھٹ گیا، اس حادثہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑا گئے فداکاروں نے آپ کو سنبھال لیا۔

بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نہایت بے قراری کی حالت میں فرمایا کرتے تھے اس وقت میں اپنے کافر بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے قتل کا جس قدر تریس و متمنی رہا اتنا کسی اور کے قتل کا کبھی تریس نہ ہوا۔

(فتح الباری، ج ۲ ص ۲۸۱)

## ۸: حضرت مالک بن سنان رضی

غزوہ اُحد میں جہاں تیر اندازی بے پناہ جاری تھی وہاں دشمنوں کی طرف سے پتھراؤ بھی بارش کی طرح ہو رہا تھا، اسی دوران ایک مشرک عبداللہ بن شہاب نے ایک بڑا پتھر پھینکا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور رخ انور خون آلود ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

حضرت مالک بن سنان (حضرت ابوسعید خدریؓ کے والد بزرگوار) نے عجلت میں چہرہ اقدس کا تمام خون چوس چوس کر صاف کر دیا، اس فداکاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَنْ تَمَسَّكَ النَّاسُ جَهَنَّمَ كِيْ اُكَّ تَجْهَكُوْهُرْ كَزَنِّ جَهْوَيْ كِي۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ  
(زرقانی ج ۲ ص ۳۸)

## ۹: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی

غزوہ اُحد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مشرکین کے پتھراؤ اور دباؤ کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے، سیدنا علیؓ اور سیدنا طلحہؓ نے سہارا دیا اور آپ کو کھڑا کر دیا، دوسری بار اس افراتفری میں پھر گر پڑے، سیدنا طلحہؓ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک اونچے مقام پر چڑھا دیا۔

سیدنا زبیرؓ فرماتے ہیں اس وقت میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا:  
اَوْجِبَ طَلْحَةَ اَوْجِبَ طَلْحَةَ. طلحہؓ نے اپنے لئے جنت واجب کر لی، طلحہؓ نے

اپنے لئے جنت واجب کر لی۔

حضرت قیس بن حازمؓ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا طلحہؓ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے تیروں سے بچایا تھا وہ ہاتھ بالکل شل ہو گیا تھا

عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءً وَقَدْ بَرِهَتْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ - (بخاری غزوة احد)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں دشمنوں کے پے در پے وار روکتے روکتے حضرت طلحہؓ کی انگلیاں کٹ گئیں تھیں۔ اس روز حضرت طلحہؓ کو پینتیس<sup>۳۵</sup> یا اُنتالیس زخم آئے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں، میرے والد حضرت ابو بکر صدیقؓ جب کبھی غزوة احد کا تذکرہ فرماتے تو یہ ضرور کہا کرتے كَانَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَطَلْحَةَ يَوْمَ دُنِ تُو سَارَا طَلْحَةَ كَيْ لَمْ يَرْهَبْ۔

۱۰: حضرت قتادہ بن نعمانؓ :-

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں احد کے دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے سامنے آ گیا تاکہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو زخمی نہ کر دے، دشمن کے ہر تیر کو اپنے آہنی ہاتھ دیکھنے سے روکتا رہا، دشمن کا ایک آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا دیدہ باہر نکل آیا۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ کی خدمت اقدس میں آیا، آپ میری حالت دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے اور دعا فرمائی :

” اے اللہ! جس طرح قتاوہؓ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے آپ بھی اس کے چہرے کی حفاظت فرماوے۔“  
یہ دُعا دے کر آپ نے آنکھ کے دیدے کو اس کی اپنی جگر رکھ دیا۔ اللہ کی قسم! اسی وقت میری آنکھ صحیح و سالم ہو گئی بلکہ پہلے سے بھی بہتر اور تیز، پھر زندگی بھر کبھی خراب نہ ہوئی۔ (الاصابہ ج ۲ ص ۳۲۵)

### ۱۱: حضرت عبداللہ بن جحش رضی

اسی جنگ اُحد میں حضرت عبداللہ بن جحشؓ انصاری کی والہانہ و فداکارانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں، اُحد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے مجھ کو ایک جانب لیجا کر تنہائی میں کہا، اے سعد! اُوہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دُعا مانگیں اور ہر ایک دوسرے کی دُعا پر آمین کہے۔ ہم دونوں میدان کے ایک گوشے میں چلے گئے، پہلے میں نے اس طرح دُعا کی:

”اے اللہ! آج میرا ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو نہایت دلیر اور غضبناک قسم کا ہو کچھ دیر تک میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے پھر مجھ کو اس پر غلبہ و تسلط حاصل ہو جائے اور میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا سارا اسلحہ پھین لوں۔“

حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے میری اس دُعا پر آمین آمین کہی، اسکے بعد حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور یہ بولیں کہا:

”اے اللہ! آج میرا ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا سخت جان زور آزما ہو اور میں اُس سے صرف آپ کی رضا و خوشنودی کے لئے مقابلہ کروں اور وہ بھی مجھ سے مقابلہ کرے یہاں تک کہ میں اُس مقابلہ میں شہید ہو جاؤں، پھر وہ میری لاش کو بگاڑ دے (یعنی جسم کے اعضاء جدا کر دے)۔

اور اے میرے رب! جب میں آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے یہ در یافت فرمائیں:

اے عبد اللہ! یہ تیرے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کہاں کٹے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں: الہی تیری اور تیرے رسول کی راہ میں بگاڑا گیا ہوں۔  
الہی اس پر آپ یہ ارشاد فرمائیں:

يَا عَبْدَ اللَّهِ قَدْ صَدَقْتَ - اے عبد اللہ! تو سچا ہے۔“

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں، حضرت عبد اللہ بن جحشؓ کی اس دُعا پر میں نے بھی آمین آمین کہی۔

پھر اُحد کا معرکہ شروع ہوا، دونوں حضرات کو ایسے ہی دشمن سے سابقہ پڑا جس کی انھوں نے دُعا کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں، دن تمام گھمسان کا معرکہ رہا، شام کے وقت لاشوں میں حضرت عبد اللہ بن جحشؓ کو دیکھا گیا، اُن کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سب کے سب کٹے پڑے تھے۔

اللہ کی قسم! اُن کی دُعا میری دُعا سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوئی۔

(صحیح مستدرک ج ۲ ص ۲۰۲)

اس واقعہ کے بعد حضرت عبد اللہ بن جحشؓ کو ”مُجَدِّعٌ فِي اللَّهِ“ (راہِ خُدا کا

کُنا پھٹا شہید) کے لقب سے یاد کیا گیا۔ رضی اللہ عنہ (اصحاب ج ۲ ص ۲۸۷)

## ۱۲: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن حرام رضی

یہ بزرگ صحابی حضرت جابر رضی کے والد محترم ہیں جو غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے، صاحبزادے حضرت جابر رضی فرماتے ہیں، میرے والد جب شہید ہوئے تو بزدل کافروں نے ان کے بھی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سب اعضاء کاٹ دیئے تھے، میرے والد کی لاش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تو میں نے اپنے شہید باپ کے چہرے سے چادر اٹھانی چاہی، صحابہ کرام رضی نے منع کیا، میں نے دوبارہ اٹھانی چاہی تو پھر منع کیا گیا۔

میری سوز و بے قراری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میری پھوپھی فاطمہ بنت عمرو رضی بھی میرے ساتھ تھیں یہ منظر دیکھ کر وہ بلبلا اٹھی اور بے تحاشہ رو پڑی۔

آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیوں روتی ہو اس پر تو فرشتے سایہ کئے ہوئے ہیں“ (یعنی یرنج و غم کا موقعہ نہیں عزت و شان کا مقام ہے)۔

یہی صاحبزادے حضرت جابر رضی فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا:

”اے جابر رضی تجھ کو کیا ہو گیا؟ میں ہر وقت تجھ کو شکستہ و غمزدہ حال دیکھ رہا ہوں؟“

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو معلوم ہے میرے والد عبد اللہ بن عمرو رضی غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے، اپنے پیچھے ایک بڑا خاندان اور بھاری قرض بھی چھوڑ گئے ہیں کچھ زمین و جائیداد بھی نہیں جس سے گھر والوں کی کفالت کر سکوں

یہی غم و فکر مجھے ستائے ہے۔  
 یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرا آیا۔ فرمایا، اے جابرؓ کیا  
 تمکو ایک خوشخبری نہ سناؤ؟

میں نے عرض کیا ضرور! یا رسول ارشاد فرمائیے۔  
 فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے سے منہ در منہ کلام نہیں کیا اور  
 اس کی شان بھی یہی ہے مگر اللہ نے تیرے باپ سے منہ در منہ (بالمقابل)  
 کلام کیا اور دریافت فرمایا، میرے بندے تیری کیا تمنا ہے؟  
 تیرے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب صرف ایک ہی تمنا ہے کہ آپ  
 مجھے دوبارہ زندہ کریں اور پھر اپنی راہ میں دوبارہ شہادت نصیب کریں، میں  
 تیری راہ میں یکبار اور شہید ہونا چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ  
 مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ واپسی نہ ہوگی (اب اللہ اور اُس کے اس خاص بندے  
 ہی کو معلوم ہے کہ اس بندے کو کیا دیا گیا)۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کے بعد میرا سارا غم و فکر  
 دُور ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۷، ص ۲۵)

### ۱۳: حضرت عمرو بن الجموحؓ

ان حضرت کی شہادت بھی غزوہ اُحد میں پیش آئی، یہ صحابی حضرت جابر  
 بن عبد اللہؓ کے پھوپھا (پھوپھی کے شوہر) ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ  
 بھی عظیم الشان ہے۔ حضرت عمرو بن الجموحؓ کے پیر میں لنگ تھا اور یہ لنگ



معمولی قسم کا نہ تھا بلکہ نمایاں قسم کا تھا۔ ان حضرات کے چار بیٹے تھے جو ہر غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے ہیں۔

اُحد کے دن چلتے وقت انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا اس غزوہ میں میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں؟

بیٹوں نے کہا ابا جان! آپ معذور ہیں، جہاد میں چلنے پھرنے دوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ یہ کام کیسے انجام دیں گے؟ جبکہ آپ طبعی چال بھی چلنے کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے آپ کو گھڑیٹھے رہنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اس اجازت سے کیوں نہیں استفادہ کرتے؟

باپ کو شوق جہاد نے بیتاب کر دیا تھا بیٹوں کا مشورہ پسند نہ آیا، لنگڑے لنگڑاتے بارگاہِ نبوی میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھ کو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں، پھر اس طرح گویا ہوئے:

وَاللّٰهُ اَحَقُّ لَّا رَجُوْا اَنْ يَّطَآءَ بَعْرَ مَجْتٰى هٰذِہٖ فِی الْجَنَّةِ۔

اللہ کی قسم! میں پُر امید ہوں کہ اپنے اس لنگڑے پیرے جنت کی زمین روندوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر بطور تسلی فرمایا: اللہ نے تمکو معذور پیدا کیا ہے تم ہر جہاد فرض نہیں ہے پھر تم کیوں ارادہ کرتے ہو؟

حضرت عمرو بن الموح نے نہایت بے بسی کی حالت میں صرف اتنا ہی عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے اپنی تمتا ظاہر کر دی اب آپ کا جو بھی ارشاد ہو؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکے بیٹوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا  
اگر انھیں نہ روکا جائے تو کیا حرج ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں انھیں  
شہادت نصیب کر دے۔

یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن الجحوم رضی تیزی سے اپنے گھر لوٹے اور جہاد کی  
تیاری شروع کر دی پھر مجاہدین کی صفوں میں جا ملے۔ اُحد کی جانب چلتے وقت  
قبلہ کی جانب رخ کیا اور یہ دُعا کی:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ وَلَا تَسْرُدْنِي فِي أَهْلِي۔

اے اللہ! مجھ کو شہادت نصیب فرما اور مجھ کو میرے گھر کی جانب نہ لوٹا۔  
پورے ذوق و شوق کے ساتھ میدان جہاد کی جانب چل پڑے۔ اپنی بساط  
کے مطابق جہاد میں حصہ لیا۔ ایک موقع پر جام شہادت نوش کیا اور اپنی  
اس قسم کو پوری کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کی تھی۔  
(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۸۸)

### ۱۴: حضرت خلاد بن عمروؓ

اسی غزوہ اُحد میں سیدنا عمرو بن الجحومؓ کے صاحبزادے خلاد بن عمروؓ اور  
بہنوٹی عبد اللہ بن عمروؓ بھی شہید ہوئے۔

سیدنا عمرو بن الجحومؓ کی بیوی سیدہ ہندہ بنت عمروؓ بیان کرتی ہیں۔ میں  
اپنے شوہر عمرو بن الجحومؓ اور بیٹے خلاد بن عمروؓ اور بھائی عبد اللہ بن عمروؓ کی  
لاشوں کو ایک اونٹ پر رکھوا کر اپنے شہر مدینہ طیبہ لے جانا چاہتا کہ انھیں  
اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کروں۔ اونٹ جانب مدینہ چلنے سے رک گیا

بار بار اُس کو کوپنے دیئے گئے، لیکن ایک قدم تک نہیں اٹھایا، پھر جب اُحد کی جانب ہانکا گیا تو تیز چلنے لگا کچھ دیر بعد پھر مدینہ طیبہ کا رخ کیا گیا اچانک بیٹھ گیا لاکھ کوشش کی گئی وہ حرکت تک نہیں کیا، اور جب اُحد کی جانب رُخ کیا گیا چلنے لگا، اس طرح بار بار کیا گیا لیکن اس کا عمل وہی رُبا وہ شہر کی طرف چلنے کے لئے کسی طرح بھی تیار نہ ہوا۔

سیدہ ہندہؓ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی یہ کیفیت بیان کی، آپ نے دریافت فرمایا:  
کیا عمرو بن الجموح نے مدینہ طیبہ سے چلتے وقت کچھ وصیت، نصیحت کی تھی؟

میں نے کہا، ہاں! یا رسول اللہ! جب وہ گھر سے نکلے تو قبلہ رُخ ہو کر انہوں نے یہ دُعا کی تھی اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ وَلَا تَرُدَّنِي فِيْ اَهْلِيْ (اے اللہ! مجھ کو شہادت نصیب فرما، میرے گھر کی طرف نہ لوٹا)۔  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب ہی تو اونٹ مدینہ کی جانب نہیں چلتا، قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے تم میں بعض بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ کسی بات پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اُس بات کو پورا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں عمرو بن الجموحؓ بھی شامل ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا: لَقَدْ رَأَيْتُمْ يَطَأُ بِعَرْجَتَيْهِ فِي الْجَنَّةِ۔  
میں نے انہیں اپنے پیر کے ننگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

اس کے بعد آپ نے ان کی بیوی سیدہ ہندہؓ کو مشورہ دیا کہ انہیں  
جبل اُحد کے دامن ہی میں سپرد خاک کیا جائے۔  
پنچا پختہ تینوں حضرات کو اُحد کے دامن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

## ۱۵: حضرت خدیجہؓ

حضرت خدیجہؓ جن کے بیٹے سعد بن خدیجہؓ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے  
تھے جن کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں آپ کا ہے باپ حضرت خدیجہؓ غزوہ اُحد  
کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور اس طرح  
عرض معروض کی:

یا رسول اللہ! جنگ بدر کے موقع پر ہم دونوں باپ بیٹے نے قرعہ اندازی  
کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون بدر کی جانب جائے اور  
کون گھر کی ضروریات کے لئے ٹھہر جائے؟ یا رسول اللہ! ہم دونوں کو آپ کے  
ساتھ چلنے کی بڑی آرزو و تمنا تھی آخر قرعہ فال میرے بیٹے سعدؓ کے نام نکلا پھر  
وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا اور شہید بھی ہو گیا۔

یا رسول اللہ! میں اس سعادت کا بڑا حریص و مشتاق تھا، بہر حال میں  
اپنے گھر کی ضروریات کے لئے مدینہ میں رہ گیا، یا رسول اللہ! گذشتہ شب  
میں نے اپنے شہید بیٹے سعدؓ کو خواب میں دیکھا ہے نہایت حسین و جمیل  
شکل میں جنت کے باغات کی سیر و تفریح کر رہا ہے اور مجھ سے کہتا ہے "ابا جان!  
آپ بھی یہاں آجائیے تاکہ دونوں جنت میں یکساں رہیں۔"

یا رسول اللہ! اس وقت میں اپنے بیٹے سعدؓ کی مرافقت کا مشتاق ہوں  
 بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو چکے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب تمنا ہے کسی طرح  
 اپنے رب سے جا ملوں، یا رسول اللہ! آپ دُعا فرمادیں غزوہ اُحد میں مجھ کو  
 بھی شہادت نصیب ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے خیمہ زہ کیلئے دُعا فرمادی۔  
 حضرت خیمہ زہ پورے ذوق و شوق سے جوانوں کی طرح معرکہ اُحد میں شریک  
 ہوئے، آخر جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہ (زاد المعاد ج ۱ ص ۹۶)

## ۱۶: حضرت عمرو بن ثابتؓ :-

ان کا لقب اُصیرم تھا اور یہ اسی لقب سے معروف تھے۔ ابتداً اسلام  
 اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، کمزور اور غریب مسلمان ان کی ایذا رسانی  
 سے پریشان رہا کرتے تھے۔

غزوہ اُحد کے دن مکہ کے مشرکوں کے ساتھ لڑنے مدینہ طیبہ آئے مسلمانوں  
 کا استقلال اور آپسی محبت و خلوص دیکھ کر اسلام کی محبت دل میں اُبل پڑی،  
 برہنہ تلوار لیکر میدان اُحد میں آگئے اور اپنے کافر ساتھیوں سے اُلجھ گئے،  
 کافر حیران و پریشان تھے کہ آخر اُصیرم کو کیا ہو گیا۔ ہمارا یہ دلیر و بہادر نوجوان  
 کیوں پلٹ گیا اور اس کو کیا بات نظر آئی؟

حضرت اُصیرم نے نہ کسی کی کُسنی نہ جواب دیا، نہایت دلیری و شجاعت  
 سے کافروں سے اُلجھ گئے اور ایسا اور ایسا حملہ کر دیا کہ کافروں میں ہیجان و پریشانی  
 پیدا ہو گئی۔

اسی معرکہ میں ان کے کسی کافر دوست نے پوچھا، اُصیرم تم کو کیا ہو گیا دوستوں کو چھوڑ کر دشمنوں سے جا ملے؟

حضرت اُصیرم نے جواب دیا، میدان اُحد کا منظر دیکھ کر پہلے تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اسی وقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا پھر بلا توقف تلوار لیکر میدان اُحد میں آ گیا اور بساط بھراپنے کافر دوستوں سے قتال کیا پھر شدید زخمی حالت میں گر پڑا۔ یہ بات ختم کی اور خود بھی ختم ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ حال سنا تو جنت کی بشارت دی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے، بتاؤ وہ کون مسلمان ہے جو جنت میں پہنچ گیا حالانکہ اُس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی؟ (یہی وہ صحابی اُصیرم ہیں) رضی اللہ عنہ،  
(اصحاب ترجمہ عمرو بن ثابتؓ)

## ۱۷: وحشی بن حربؓ :-

غزوہ اُحد میں حضرت حمزہؓ کے دلیرانہ حملوں سے مشرکین کی صفوں میں بڑا انتشار تھا، سیدنا حمزہؓ کے ہر حملے نے برق و باران کی طرح مشرکوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اسلام کے دشمنوں پر ایک خدائی قہر تھا جو سیدنا حمزہؓ کے بال بال سے پھوٹ رہا تھا۔ میدان جنگ میں جس جانب بھی رخ کرتے کُفر و شرک کی طاقتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، جس پر بھی تلوار اُٹھاتے اسکی لاش زمین پر نظر آتی۔

مشہور کافر جبیر بن مطعم کا مجوسی غلام وحشی بن حرب اپنے آقا کو خوش کرنے اور اپنی آزادی حاصل کرنے سے سیدنا حمزہؓ کی تاک میں چھپتا چھپتا پھر رہا تھا۔ سیدنا حمزہؓ اپنی جان سے بے پروا دشمنوں کے تعاقب میں تھے، وحشی ایک ٹیلے کے پیچھے چھپکے بیٹھ گیا۔

سیدنا حمزہؓ اپنی مہم میں اس جانب سے گزر رہے تھے بزدل وحشی نے اچانک نیزہ پھینکا، نیزہ آپ کی ناف پر لگا اور آر پار ہو گیا، سیدنا حمزہؓ دو چار قدم چلے پھر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہ اس کارروائی کے بعد وحشی نے اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لی پھر شہر طائف جا کر مقیم ہو گیا۔ اس حادثے کے پانچ سال بعد شہ ہجری میں مکہ المکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

اس فتح مبین کے بعد چھوٹے بڑے قبائل جو درجہ اسلام قبول کرنے لگے، انہی دنوں طائف کے ایک وفد کے ساتھ وحشی بن حرب بھی بارگاہ نبوت میں اسلام قبول کرنے مدینہ طیبہ آیا۔

صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ! یہ وحشی بن حرب وہی کافر ہے جس نے سیدنا حمزہؓ کو قتل کیا تھا۔

آپؐ نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہونے آیا ہے۔ ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک ہزار کافروں کے قتل سے بہتر ہے جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپؐ نے سیدنا حمزہؓ کے قتل کی تفصیل دریافت کی۔

وحشی نے نہایت ندامت و شرمندگی کی حالت میں پوری تفصیل بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آنسو تھمے نہ پائے باہول

میں ایک سو گوار فضا پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے وحشی بن حربؓ سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، فرمایا، اگر ہو سکے تو تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمکو دیکھکر عزیز بچھا کا صدمہ تازہ ہوگا۔

وحشیؓ نے آپ کے ارشاد کو بسر و چشم قبول کیا اور زندگی بھر آپ کی اس خواہش کا احترام کیا، آپ کی مجلس میں کبھی آنا ہوتا تو پس پشت بیٹھ جاتے اور اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں جو سیدنا حمزہؓ کے قتل کا بدلہ بن جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد خلافت صدیقی میں ایک منافق صفت انسان مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا جاہل لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئے، سیدنا صدیق اکبرؓ نے اسکی سرکوبی کیلئے ایک لشکر روانہ کیا اس میں حضرت وحشی بن حربؓ بھی شریک ہو گئے اور موقعہ کی تاک میں رہے ایک وقت ایسا آ گیا کہ مسیلمہ کذاب حضرت وحشیؓ کی زد میں آ گیا۔ حضرت وحشیؓ نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب پر حملہ کر دیا جس سے حضرت حمزہؓ شہید ہوئے تھے مسیلمہ آنا فانا ڈھیر ہو گیا۔ (لَعْنَةُ اللَّهِ)

اس واقعہ کے بعد جب بھی سیدنا حمزہؓ کی شہادت کا ذکر آتا حضرت وحشیؓ بڑے جوش و خروش سے کہا کرتے:

قَتَلْتُ فِي الْكُفْرِ خَيْرَ النَّاسِ وَفِي الْإِسْلَامِ شَرَّ النَّاسِ۔

حالت کفر میں افضل ترین انسان (حمزہؓ) کو قتل کیا اور مسلمان ہو کر

بدترین انسان (مسیلمہ) کو ڈھیر کیا۔

تِلْكَ بِتِلْكَ يَبِ اس کا بدلہ ہے۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۸۴)

جَزَاءُ اللَّهِ خَيْرًا۔



## حضرت حکیم بن حزامؓ

حکیم بن حزامؓ کے تذکرے سے پہلے یہ مختصر وضاحت ضروری ہے ماقبل اسلام مکہ المکرمہ میں مسجد حرام (بیت اللہ) کے قریب ایک مکان ”دار النذوہ“ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے تعمیر کیا تھا اس مکان میں وہ قومی و ملکی مشورے کیا کرتے تھے، انکی وفات کے بعد یہ مکان ”بنو عبد الدار“ کے قبضہ میں آیا اور وہی اس کے متولی بھی رہے بنو عبد الدار سے یہ مکان حکیم بن حزامؓ نے خرید لیا (جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے) عرصہ دراز تک یہ مکان ان کے قبضہ میں رہا۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ حکومت میں حکیم بن حزامؓ نے یہ مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔ بعض دوستوں نے حضرت حکیمؓ کے اس عمل پر نکتہ چینی کی کہ آبار و اجداد کی ایک اہم نشانی کو تم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا؟

لہ اسی مکان میں قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل والی سازش کی تھی اسی جگہ ابلیس لعین شیخ نجدی کی شکل میں مشورہ دینے آیا تھا جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔  
 فَإِذْ يَمَكُمُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَّبِعُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِبُوا جُودَكَ. (الأنفال آیت ۲۵)  
 ترجمہ :- اور جب کافروں کو آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا شہر بدر کر دیں وہ تو تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔

موجودہ دور ۱۳۲۵ھ یہ جگہ حرم شریف کی جدید توسیع میں آگئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات (نای گیٹ) اسی جگہ پر واقع ہے۔ واللہ اعلم

حضرت حکیم نے نہایت حکیمانہ جواب دیا:  
 ”اللہ کی قسم! ساری بزرگیاں اور عزتیں ختم ہو گئیں سوائے  
 تقویٰ و پرہیزگاری، واللہ! میں نے یہ مکان زمانہ جاہلیت میں  
 شراب کی ایک مشکیزہ کے عوض خرید لیا تھا اور اب اسکو ایک لاکھ  
 درہم میں فروخت کیا ہے۔ اب میں تمکو گواہ بناتا ہوں کہ یہ ایک لاکھ  
 سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں۔ بتاؤ! کیا میں نقصان میں رہا؟“  
 (زرقانی ص ۲۲۱)

### حضرت ابولبابہ بن عبدالمندثرؓ:

صحابی رسول حضرت ابولبابہؓ کے تعلقات مدینہ طیبہ کے یہودی قبیلہ  
 بنو قریظہ سے اچھے خاصے تھے اور آمدورفت بھی جاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے بنو قریظہ کی ایک شدید عہد شکنی کی وجہ سے ان پر حملہ کر دیا تھا یہ واقعہ  
 ۵ھ ہجری کا ہے۔

یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں میں پناہ اختیار کر گئے۔ صحابہ کرامؓ نے پچیس  
 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ جاری رکھا آخر کار ان یہودیوں نے مجبور ہو کر بس  
 ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح صفائی کرنی چاہی، ان کے ایک سردار نے  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پہنچائی کہ آپ ہمارے  
 بارے میں جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، البتہ ابولبابہؓ کو ہمارے ہاں روانہ  
 کریں تاکہ ان سے مشورہ کر کے آپکو جواب دے دیا جائے۔  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولبابہؓ کو اجازت دے دی، یہ جب

اُن کے قلعے میں پہنچے سب یہودی جمع ہو گئے، عورتیں بچے اور بوڑھے انہیں دیکھ کر رو پڑے۔ ان کی بے بسی و خستہ حالی دیکھ کر ابو لُبَابہؓ کا دل بھرا آیا اور کچھ رقت طاری ہو گئی۔

یہ یہودیوں نے ان سے پوچھا، ابو لُبَابہؓ آپ کے رسول کا جو بھی منشا ہے کیا اُسکو قبول کر لیا جائے؟

حضرت ابو لُبَابہؓ نے کہا۔ یہی بہتر اور مناسب ہے پھر اپنے حلق کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ بعد میں تم سب کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔

حضرت ابو لُبَابہؓ نے یہ بات کہہ کر اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے تھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور اُس کے رسول سے خیانت کی ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔)

قلعے سے فوری واپس ہو گئے شدید ندامت اور احساسِ گناہ کے غلبہ میں مسجد نبوی شریف آئے اور اُس کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا (آج ۱۴۲۵ھ یہ مقام مسجد نبوی کے ریاض الجنۃ والے ستونوں میں ایک ستون ”اُسْطُوَانَةُ ابْنِ لُبَابَةَ“ کے نام سے موجود ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابو لُبَابہؓ نے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا)۔

پھر ابو لُبَابہؓ نے یہ قسم بھی کھالی کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کرے اس وقت تک ستون سے بندھا رہوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، اگر ابو لُبَابہؓ سیدھے میرے پاس آجاتا تو میں اس کے لئے دُعائے مغفرت کرتا لیکن وہ ایسا کام کر گزرا ہے کہ میں اب اس کو ہاتھ سے کھول نہیں سکتا

تا آنکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرمادے۔

حضرت ابو لُبَابہؓ شب و روز ستون سے بندھے رہتے صرف نماز اور طہارت کے لئے نکلتے، کھانا پینا بھی بند کر لیا۔ صحابہؓ کے دریافت کرنے پر کہتے میں اسی طرح رہوں گا یا فوت ہو جاؤں یا اللہ! میری توبہ قبول فرمائے، چھ دن بعد ان کی توبہ نازل ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہؓ کے مکان میں تھے، سحر کا وقت تھا آپؐ نے فرمایا ابھی ابھی جبرئیل امینؑ نے اطلاع دی، اللہ تعالیٰ نے ابو لُبَابہؓ کی توبہ قبول کر لی ہے اور یہ آیات تلاوت کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ الْخَالِ (انفال آیت ۲۴)

ترجمہ:- اے ایمان والو! جانتے بوجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ بنو اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامانِ امانت ہے اور اللہ کے پاس اجر و صلہ دینے کے لئے بہت کچھ ہے۔

سیدہ ام سلمہؓ نے اس بشارت کو عام کر دیا، صحابہ کرامؓ میں یہ خبر عام ہو گئی لوگ دوڑ دوڑ کر مسجد نبوی شریف پہنچے تاکہ حضرت ابو لُبَابہؓ کو ستون سے کھول دیں۔ حضرت ابو لُبَابہؓ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے بندھا رہوں گا۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف لائے اور اپنے دست مبارک سے انھیں کھول دیا اور مبارک باد دی۔ اس طرح حضرت ابو لُبَابہؓ کا قضیہ

یوں تمام ہوا۔

**ملفوظ:** عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ خیانت مال و اسباب ہی میں ہوا کرتی ہے لیکن مذکورہ آیت نے مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ اور رسول کے منشا و مراد کے خلاف کوئی عمل کرنا بھی خیانت ہے۔ حضرت ابولبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا تھا جو منشا رسول کے خلاف تھا قرآن حکیم نے اس عمل کو خیانت قرار دیا۔

حدیث شریف میں یہ وضاحت بھی ہے:

الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ شخص بات کا امین و محافظ ہوا کرتا ہے۔ یعنی مشورے کی بات کو مشورہ دینے والے کی اجازت کے بغیر دوسرے سے بیان نہ کیا جانا چاہیے۔ مشورہ کی بات امانت ہوا کرتی ہے۔

## بیعت رضوان کے وفادار:-

حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا جس کے متصل ایک گاؤں آباد تھا جو اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج کل ۱۴۲۸ھ اس کا نام شمیسی ہے مکہ المکرمہ سے تقریباً ۱۳ میل بجانب جدہ یہ بستی آباد ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں ایک رات خواب آیا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی الہی کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے جس کا ثبوت سورۃ الفتح کی آیت ۲۷ میں موجود ہے آپ نے اپنے اصحاب کو اپنا خواب سنایا اور مکہ المکرمہ چلنے کا اعلان کر دیا۔

مسلمانوں کے لئے تقریباً سات آٹھ سال سے بیت اللہ شریف کا داخلہ مشرکوں نے بند کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر عام مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے شوق نے بے چین و بیتاب کر دیا۔ چنانچہ پہلی ذوالقعدہ ۳۰ھ ہجری دو شنبہ (پیر) کے دن آپ تقرباً پندرہ سو اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، کسی شیطان نے یہ افواہ اڑادی کہ مسلمان مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے نکل گئے ہیں۔

اس جھوٹی خبر پر قریش مکہ پوری فوجی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام راستہ بدل کر ایک دشوار ترین سے مقام حدیبیہ پہنچ گئے، پھر حسب مشورہ آپ نے حضرت عثمان غنیؓ کو صورت حال بیان کرنے کے لئے مکہ المکرمہ روانہ فرمادیا۔

حضرت عثمان غنیؓ کے واپس ہونے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی، کسی شریہ نے یہ افواہ اڑادی کہ حضرت عثمانؓ کو مکہ کے مشرکین نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر اس وجہ سے بھی تقویت پائی کہ حضرت عثمان غنیؓ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صاحب تراش بن امیہ خزاعیؓ کو بات چیت کرنے کے لئے مکہ المکرمہ روانہ کیا تھا، اہل مکہ نے ان سے نہایت برا سلوک کیا اور ان کے اونٹ کو بھی ذبح کر دیا تھا یہ صاحب اپنی جان بچا کر حدیبیہ آگئے تھے۔

بہر حال حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کی خبر عام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، کسی قوم کے سفیر کو قتل کر دینا آج نہیں قدیم زمانے میں بھی نہایت بدترین جرم و ناقابل معافی عمل شمار کیا جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ میں اعلان کروا دیا جب تک کہ عثمانؓ کا

بدلہ نہ لیا جائے میں واپس نہ ہوں گا۔

اس وقت آپ حدیبیہ میں کیکر کے درخت تلے تشریف فرما تھے۔ صحابہؓ کو طلب فرمایا اور ”بیعت علی الموت“ (اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کا اقرار و عہد) لیا۔

اس بیعت نے صحابہؓ میں ایسا جوش و خروش پیدا کر دیا کہ کوئی پیٹھ پھیرنے کے لئے تیار نہ تھا جبکہ سب کے سب سامان حرب و ضرب سے بالکل خالی تھے (یہ اس لئے کہ مدینہ طیبہ سے چلتے وقت صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کا ارادہ تھا) صحابہ کرامؓ کا اپنی موت پر عہد کرنا ایک منفرد عمل تھا جو اس سے پہلے کبھی سنا نہ گیا تھا۔

شُدہ شدہ یہ خبر مکہ المکرمہ پہنچی، مشرکین گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ قتل عثمانؓ کی خبر جھوٹی ہے پھر اسی وقت حضرت عثمانؓ کو واپس بھی کر دیا۔

چونکہ جہاد کی یہ بیعت نہایت نازک و حساس صورت حال پر لی گئی تھی اور صحابہ کرامؓ نے پورے عزم و حوصلے اور اخلاص کے ساتھ اقرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جانثاری و فداکاری کی قدر و منزلت فرمائی اور اپنی رضا و خوشنودی کی سُنڈنازل کی۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۗ اللَّهُ

(سورة الفتح آیت ۱۸)

ترجمہ :- بالتحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے آپ سے اُس درخت کے نیچے پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی

معلوم تھا پھر نازل کیا ان پر اطمینان اور انعام دیا انکو قریبی فتح کا۔ (فتح خیبر)۔  
 حدیبیہ کی اس بیعت کا نام تاریخ اسلام میں ”بیعت رضوان“ مشہور ہے۔  
 (قرآن حکیم نے اس واقعہ کو بیان فرما کر قیامت تک اصحاب رسول کے ایمان  
 و اخلاص، جانثاری و فداکاری کی توثیق کر دی، اس کے بعد کسی کے بھی تبصرہ  
 و تنقید کی کوئی حیثیت نہ رہی) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔

مشرکین مکہ کو جب اس عظیم بیعت کا علم ہوا مرعوب و خوفزدہ ہو کر صلح صفائی  
 کے لئے کلام و پیام کا سلسلہ شروع کر دیا، پھر صلح حدیبیہ طے پائی۔  
 (فتح الباری ج ۷ ص ۲۲۵)

صلح کی تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”ہدایت کے چراغ“ جلد ۲ ص ۵۸۷  
 مطالعہ کیجئے جو اس واقعہ کی مکمل دستاویز ہے۔

## حضرت خَاطِبُ بْنُ اَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ

صلح حدیبیہ کے شروطِ استم (چھ شرطوں) میں ایک پانچویں دفعہ یہ  
 بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو قبیلہ بھی مسلمانوں یا اہل قریش (مشرکین مکہ)  
 کے ساتھ عہد و پیمان کے تعلقات قائم کرنا چاہے اس کو اجازت رہے گی  
 اس الحاق اور عہد و پیمان کا دونوں فریق (مسلمان اور اہل قریش) احترام  
 کریں گے، چنانچہ یہودی قبائل میں قبیلہ بنو خزاعہ نے تو مسلمانوں کے ساتھ  
 عہد و پیمان اور ایک دوسرے کی مدد و تعاون کا معاملہ طے کر لیا۔

یہود کا دوسرا قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ (مشرکین) کے ساتھ دوستی  
 و عہد و پیمان کا معاہدہ کر لیا۔ ان دونوں قبیلوں بنو خزاعہ اور بنو بکر میں مانہ قدیم



سے بغض و عداوت چلی آرہی تھی اس معاہدہ سے کچھ ٹھیراؤ پیدا ہوا لیکن بہت جلد دونوں میں یہ معاہدہ برقرار نہ رہ سکا۔

قبیلہ بنو بکر (قریش مکہ کے طرفدار) نے ایک رات قبیلہ بنو خزاعہ (مسلمانوں کے طرفدار) پر اچانک حملہ کر کے ان پر قیامت ڈھادی، اس غارت گری میں قریش مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور ان کی بھرپور مدد کی انکا مقصد یہ تھا کہ بنو خزاعہ کو جنھوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا تھا مزہ چکھایا جائے۔ بنو بکر کی یہ غداری و عہد شکنی صلح حدیبیہ کی دفعہ ۷ کے خلاف تھی، اس لئے اب مسلمانوں پر صلح حدیبیہ کے معاہدے پر قائم رہنا ضروری نہ رہا کیونکہ قریش مکہ نے خود صلح حدیبیہ توڑ دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و اکناف میں اعلان عام کروا دیا۔

”جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو

وہ ماہ رمضان تک مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔“

لیکن عام طور پر کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جانب حملہ کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی تیاری کا علم قریش مکہ کو نہ ہونے پائے۔

اس رازداری کے ساتھ اسلامی لشکر کو بیچ کرنے ہی والا تھا کہ ایک حادثہ پیش آگیا۔

حضرت حاطب بن ابی بلتعزہ جو ایک فخلص بدری صحابی ہیں، ان کے اہل و عیال کسی ضرورت کے تحت مکہ المکرمہ میں مقیم تھے، حضرت حاطب کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی پوری خبر تھی، ایسے وقت ان کو اپنے اہل و عیال کا خیال ستایا کہ اگر مکہ المکرمہ پر مسلمانوں کا اچانک حملہ ہو گیا تو میرے افراد خاندان بھی زد میں آجائیں گے، کیوں نہ میں قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مطلع کر دوں؟ تاکہ اس اطلاع و احسان پر قریش مکہ میرے اہل و عیال کی حفاظت اور خیر خواہی کریں۔ اس طرح ان کی ہمدردی حاصل کر کے میں اپنے اہل و عیال کو محفوظ بنا لوں گا۔

اس خام خیالی میں حاطب بن ابی بلتعنہ نے قریش مکہ کے سرداروں کے نام ایک خط روانہ کر دیا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لئے کوچ کر رہی ہے آپ لوگ خبردار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ

پھر اس خط کو نہایت رازداری کے ساتھ ایک مسافر خاتون کے ذریعہ مکہ المکرمہ روانہ کر دیا، یہ عورت مدینہ طیبہ سے جو نہی نکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی واقعہ کی اطلاع کر دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت مقدادؓ کو روانہ کیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ وہ عورت مقام "روضہ نواح" میں تم کو اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس مشرکین مکہ کے نام حاطب بن ابی بلتعنہ کا ایک خط ہے جسکو جبراً لے لینا۔

یہ تینوں حضرات نہایت تیز رفتاری سے اُس مقام تک جا پہنچے، اُس عورت کو پایا اور خط کا مطالبہ کیا، اُس نے ایسے کسی بھی خط کا انکار کیا، آخر ان حضرات نے جامہ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اپنے سر کے گندھے

بالوں سے ایک خط نکال کر دے دیا۔

یہ حضرات خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے آپ نے حاطب کو طلب فرمایا اور فرمائش کی یہ کیا معاملہ ہے؟ حاطب نے بلا کسی خوف و اندیشہ عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے مواخذہ میں عجلت نہ فرمائیے پہلے میرا عذر سماعت فرمائیے۔

یا رسول اللہ! قریش مکہ سے میری کوئی رشتہ داری نہیں صرف دوستانہ تعلقات ہیں ان دنوں میرے اہل و عیال مکہ المکرمہ میں مقیم ہیں جنکا وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں بخلاف مہاجرین کہ ان کی قرابتیں و رشتہ داریاں وہاں موجود ہیں، ان رشتہ داروں کی وجہ سے ان کے بقیہ اہل و عیال محفوظ ہیں، اس لئے میں نے چاہا کہ قریش مکہ کے ساتھ کچھ ایسا احسان و سلوک کر دوں جس کے صلہ میں وہ لوگ میرے اہل و عیال کا پاس و لحاظ کریں اور ان کی حفاظت ہو جائے۔

بس اسی غرض کے تحت میں نے اہل قریش کو خط لکھ دیا تھا یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی! نہ میں نے خیانت کی ہے نہ اسلام سے منہ پھیرا ہے نہ ہی کفر پر راضی ہوا ہوں۔ میری غرض و نیت وہی تھی جو میں نے بیان کی صحیح بخاری کی روایت میں یہ جملہ بھی موجود ہے۔

جب آپ نے حاطب کا یہ عذر سنا تو ارشاد فرمایا:

أَمَّا أَنْتَ قَدْ صَدَقَكُمُ - يَقِينًا حاطب نے سچ سچ بیان کر دیا۔

یہ سنکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے عرض کیا، اللہ ورسولہ

أَعْلَمُ (حقیقی علم اللہ اور اُس کے رسول ہی کو ہے) حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداءً

یہ واقعہ سنتے ہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ! اجازت دیجئے حاطب بنی گردن  
اُڑادوں؟

بہر حال حاطب بن ابی بلتعنہ کے اس واقعہ پر فسران حکیم کی یہ  
آیات نازل ہوئیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ  
أَوْلِيَاءَ. الخ (سورة الممتحنة آیت ۱)

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست  
نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ جو سچا دین  
تمہارے پاس آچکا ہے اس کو وہ لوگ قبول کرنے سے انکار کر چکے  
ہیں۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ رسول کو اور تم سب کو صرف اس  
وجہ سے جلا وطن کر دیا کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے، جبکہ  
تم میری راہ میں جہاد کرنے نکل چکے ہو اور میری خوشنودی کے لئے  
اپنے گھروں اور وطن کو چھوڑ چکے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام  
بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور علانیہ کرتے ہو ہر چیز  
کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں ایسا کرے گا وہ یقیناً  
سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔

حضرت حاطب بن ابی بلتعنہ کو معاف کر دیا گیا لیکن قیامت تک  
کے لئے یہ درس و نصیحت فرار پایا۔ (بخاری ج ۲ ص ۹۲۵)

## چار مومنات صادقات :-

غزوہ احزاب شد، بحری کے بعد قبیلہ بنو نضیر اور بنو قریظہ (یہ یہودی بستیاں) کی فتوحات اور اموالِ غنیمت کی عام تقسیم نے مسلمانوں میں ایک گونا گونا خوشحالی پیدا کر دی تھی، ان فتوحات میں بکثرت مال و زر ہاتھ آیا تھا، اسی زمانے میں ازواجِ مطہرات کو بھی خیال آیا کہ نبی کا گھر بھی اس خوشحالی سے مستفید ہونا چاہیے، گھریلو خرچ کی تنگی جو عرصہ سے چلی آرہی تھی وہ دور ہو جانی چاہیے۔ ازواجِ مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔

یا رسول اللہ! قیصر و کسریٰ (روم و ایران کے بادشاہ) کی بیگمات طرح طرح کے زیورات قیمتی لباس میں کلبوس ہیں اور ان کی خدمات کیلئے باندیاں اور غلام ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ فتنہ و فاقہ تک دور نہیں ہوتا، کیا ہمارا درجہ ان مشرکات سے بھی کم تر ہے؟ کہ ہمیں ضروری خرچ بھی میسر نہ ہو؟

یا رسول اللہ! ان دنوں مال و دولت کی کثرت سے بیت المال بھرا ہوا ہے، کم از کم سال بھر کا خرچہ بیک وقت ہمیں دے دیا جائے تاکہ سکون سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبہ پر خاموش ہو گئے کچھ جواب نہ دیا۔

حسن اتفاق سے انہی دنوں حضرت عمر الفاروقؓ نے اپنی صاحبزادی سیدہ حفصہؓ

کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کسی معاملہ میں سخت دست کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگی ہو اور آپ سے وہ چیز طلب کرتی ہو جو آپ کے پاس موجود نہیں، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دیں اللہ نے آپ پر نکاح کے بارے میں کوئی تحدید (پابندی) نہیں رکھی۔

بہر حال ازواجِ مطہرات نے اپنا مطالبہ پیش کر ہی دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردد اور فکر میں پڑ گئے، وحی الہی کا انتظار تھا لیکن وحی بھی نہ آئی، آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات سے ایک ماہ کیلئے علیحدگی اختیار کر لی، اس وقت آپ کے نکاح میں صرف چار ازواج تھیں۔

سیدہ سُوْدَةُ، سیدہ عَائِشَةُ، سیدہ حَفْصَةُ، سیدہ اُمُّ سَلْمَةَ۔

(احکام القرآن ابن العربی ج ۲ ص ۱۳)

یکماہ بعد آیات نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَكْفُرَ بِأَجْحِكِ إِنَّ كُفْرَتِي لَشَرُّنَا

الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَنُرِيدُهَا الْآلِيَةَ (سورة الاحزاب آیت ۲۸)

ترجمہ :- اے نبی آپ اپنی ازواج سے فرمادیں (تم سے دو ٹوک بات کی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے بات صاف ہو جائے وہ یہ کہ) اگر تم دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہوں تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور خیر و خوبی کے ساتھ رخصت بھی کر دوں (یعنی سنت کے مطابق طلاق دے دوں تاکہ جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کر لیا) اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور عالمِ آخرت (کے بلند درجات) کو

چاہتی ہوں تو تم میں نیکی پسند کرنے والیوں کے لئے اللہ نے اجر عظیم  
مہیا کر رکھا ہے۔ الخ (تفسیر: بحر محیط ابو حیان)

جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے  
پہلے سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے گفتگو کی۔

”اے عائشہؓ! میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اب دینے  
میں عجلت نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔  
اللہ کی طرف سے یہ حکم آپ کا ہے، تم سب کو اختیار دے دیا گیا ہے  
چاہے موجودہ زندگی پر قناعت کر کے نبی کی زوجیت کو پسند کر لیں  
یا پھر اپنا اپنا حق لیکر نبی کے گھر سے رخصت ہو جائیں؟“  
یہ سنتے ہی سیدہ عائشہ صدیقہؓ نے عرض کر دیا:

یا رسول اللہ! بھلا یہ بات مشورہ کرنے کی ہے کہ میں اپنے والدین سے  
پوچھوں؟ یا رسول اللہ! میں نے تو اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت ہی کو  
اختیار کر لیا ہے مجھ کو مشورہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے اس جواب پر آپ کو خوشی ہوئی، ارشاد فرمایا:  
اے عائشہؓ! مجھ کو تم سے یہی امید تھی۔

اس کے بعد آپ نے بقیہ ازواج سے فرداً فرداً یہی بات دہرائی سب نے  
وہی جواب دیا جو سیدہ عائشہؓ نے دیا۔

**ملحوظہ:**۔ روایات میں یہ اضافہ بھی ملتا ہے، جب آپ چلنے  
لگے تو سیدہ عائشہؓ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! میرا جواب کسی بھی بیوی پر ظاہر نہ فرمائیے، انکو خود جواب

دینے کا موقعہ دیکھئے۔  
آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی دریافت کرے تو میں ظاہر بھی کر دوں گا  
ورنہ نہیں۔

محمدؐ اس کی نوبت ہی نہ آئی چاروں بیویوں نے ایک ہی جواب دیا  
اور سب نے موجودہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسولؐ اور دارِ آخرت کے  
ساتھ پسند کر لیا، پھر کسی خاتون نے بھی تاحیات تنگی کی شکایت نہ کی۔  
(مسند احمد، مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

## چار معذور وفادار:-

غزوۂ تبوک کے سفر میں جن تین مخلص مسلمانوں نے شرکت نہ کی تھی  
جن کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں آپکا ہے، ان کے علاوہ دیگر چار مخلص  
مسلمانوں نے بھی شرکت نہ کی تھی جن کے نام یہ ہیں۔

ابولبابہؓ، مرداسؓ، اوسؓ بن خدامؓ، ثعلبہؓ بن ودیعہؓ،

(اسباب النزول للسیوطی)

ان چاروں کی عدم شرکت کسی ذہنی و فکری بغات سے تعلق نہیں رکھتی  
تھی۔ صرف غفلت و کاہلی نے "آج کل" کے بے حقیقت عنوان کے تحت انہیں  
پیچھے کر دیا تھا۔ ان حضرات کو جب معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق  
اللہ اور اس کے رسولؐ کی کیا رائے ہے تو انہیں ندامت و غم نے  
بے سکون کر دیا۔

اس سے پہلے کہ ان سے باز پرس ہو چاروں نے اپنے آپکو مسجد نبوی شریف



کے ستونوں سے باندھ لیا اور عہد کر لیا کہ ہم پر کھانا، پینا، سونا حرام ہے جب تک کہ ہم کو معاف نہ کر دیا جائے یا پھر اسی حالت میں فوت ہو جائیں، چنانچہ کئی دن بے آب و خواب ستونوں سے بندھے رہے حتیٰ کہ ان میں بعض بے ہوش و چکر کھا کر گر پڑتے تھے۔

چند دنوں کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی، انہیں بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، یہ حضرات اپنی خود گرفتاری سے آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا:

یا رسول اللہ! ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس مال و ساز و سامان نے ہمیں اللہ کی راہ میں چلنے سے روک دیا ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک تہائی کافی ہے۔

چنانچہ ان حضرات نے اپنے اپنے گھر کا ایک تہائی حصہ اسی وقت خیرات کر دیا۔ (اس واقعہ کے بعد اپنے کل مال کا ایک تہائی حصہ اپنی حیات میں صدقہ کرنے کی اجازت قیامت تک کے لئے اسلام کی سنتوں میں شامل ہو گئی)۔

یہ سب حضرات مخلص مومن تھے، ان کا پچھلا کارنامہ ہر عیب سے خالی تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کو کفر و نفاق سے ہمیشہ دور رکھا تھا، اسلام کے عظیم معرکوں میں پورے اخلاص سے شرکت کرتے تھے، اسلام کی سربلندی کیلئے مال و جان

کی بازی لگا دینا ان کا مقصد حیات تھا، ان کی زندگی کے یہی لیل و نہار تھے، چونکہ صادق الایمان تھے اسی ایمانی احساس نے انہیں اعترافِ جرم پر مجبور کر دیا۔

بشری کمزوریوں سے کون خالی ہے، لغزش و کوتاہی ہر انسان کا لازمہ ہے اگر کسی انسان سے بھول و غفلت ہو جائے یا دانستہ بھی کوئی بُرا عمل اتفاقاً ہو جائے تو یہ اس کے عدمِ اخلاص یا کفر و نفاق کی علامت نہیں اور نہ اس کا یہ طرزِ عمل دینی بے سزائی یا آخرتِ فراموشی قرار پائے گا۔ کسی کے گاہے ماہے عمل کو دیکھ کر کوئی حتمی و قطعی فیصلہ کر دینا بڑی بے جا جسارت ہوگی۔

(اللہ نقد و تبصرہ کرنے والوں کو توفیق و ہدایت دے۔)

غزوہ تبوک میں مذکورہ بالا حضرات کی عدم شرکت، بھول، غفلت، لغزش و کوتاہی، خطا و نسیان جیسے عنوانات کے تحت تو آسکتی ہے، کفر و النیاد، اتداد و نفاق کے باعث ممکن نہیں جیسا کہ مُنِ افقوں کی روش ہو کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ان حضرات کی توبہ قبول کی گئی بلکہ انکا نیک ابدی تذکرہ قرآن حکیم کی آیات میں قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ اللہ سے راضی رہے اور اللہ بھی ان سے راضی ہوا۔  
(سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۳)

## اخلاق کی بلند کرداری :-

سیدہ عائشہ صدیقہؓ پر منافقین کے علاوہ جن سادہ لوح مسلمانوں نے تہمت میں حصہ لیا تھا، (جس کا تذکرہ سورہ نور آیات ۲۱ تا ۲۴ میں موجود ہے) ان میں حضرت مسطح بن اثاثہؓ، حضرت حسان بن ثابتؓ اور سیدہ ختمہ بنت جحشؓ شامل ہیں (پوری تفصیل ہماری کتاب "ہدایت کے چراغ" جلد ۲ ص ۶۸۹ پر مطالعہ کیجئے)

اول الذکر دونوں صحابی "اصحاب بدر" میں شامل ہیں جن کی مغفرت و کامیابی کا وعدہ اللہ نے کر دیا تھا (بخاری) مگر ان دونوں سے سخت لغزش ہو گئی جس پر دونوں حضرات نے سچی توبہ بھی کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی جس کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورہ توبہ آیت ۴۱ میں موجود ہے۔

پہلے صحابی حضرت مسطحؓ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے قریبی رشتہ دار مسکین و نادار مسلمان تھے حضرت صدیق اکبرؓ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب میری برأت و پاکدامنی نازل فرمادی، میرے والد سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے قسم کھالی کہ وہ اُنڈہ سے مسطحؓ کی امداد نہ کریں گے۔

کیونکہ انھوں نے نہ ایمانی رشتہ کا پاس و لحاظ کیا نہ ہی احسان و صلہ رحمی کا خیال کیا، اس طرح میرے والد نے اُن کی امداد بند کر دی، ایسے ہی دیگر حضرات نے بھی قسم کھالی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتانِ عظیم میں حصہ لیا

ہے ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔

اس صورت حال پر قرآن نازل ہوا:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا  
أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ. الخ (سورة النور آیت ۲۲)

ترجمہ :- تم میں جو لوگ صاحبِ فضل اور حیثیت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف و درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں (بھی کسی خطا پر) معاف کر دے اور اللہ مغفرت والا رحمت والا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت کیں اسی وقت

سیدنا ابو بکر صدیقؓ و دیگر اصحاب نے بر ملا کہا:

بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنْ تَانَحِبْتُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا يَا رَبَّنَا۔

واللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں

معاف کر دے۔

صدیق اکبرؓ نے حضرت مسطحؓ کی امداد پہلے سے زیادہ کر دی

اور دیگر اصحابؓ نے بھی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## حضرت عبد اللہ بن عمروؓ:

یہ نوجوان صحابیؓ اپنی جوانی ہی میں عبادت گزار، شب بیدار، زاہد و پرہیزگار انسان شمار کئے جاتے تھے۔

اپنے نکاح کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔

میرے والد نے ایک اچھے و شریف خاندان کی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا تھا اور پھر آئے دن اپنی بہو کی خیر و خیریت لینے ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور اپنی بہو سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اور تمہارے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں؟

ایک دن حسبِ عادت آئے اور پوچھا آج کل تمہارا کیا حال ہے؟ شوہر کیسے ہیں؟ بیوی نے کہا ویسے تو وہ اچھے و نیک انسان ہیں لیکن انہوں نے نکاح کے بعد سے آج تک بستر پر قدم تک نہیں رکھا اور نہ ہی گھریلو امور میں کوئی توجہ دی۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں، میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتِ حال بیان کر دی، آپؐ نے مجھ کو طلب فرمایا، میں حاضر خدمت ہوا، دریافت فرمایا:

عبد اللہ! تمہارے روزوں کا کیا حال ہے؟

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔

پھر آپؐ نے تلاوتِ قرآن کا حال دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا،

یا رسول اللہ! ہر رات ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا، ہر ماہ صرف تین روزے رکھ لیا کرو اور ہر ماہ ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں جوان آدمی ہوں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔

ارشاد فرمایا، پھر سب سے بہتر روزہ صومِ داؤد (علیہ السلام) رکھ لیا کرو وہ ایک دن روزہ دوسرے دن افطار کر لیا کرتے تھے (یعنی ایک دن آڑ روزہ رکھا کرتے تھے) رہا قرآن کا ختم ہر سات یوم میں ایک بار کر لیا کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ حیاتِ نبویؐ میں آپ کی ہدایات کے مطابق عبادت کر لیا کرتے پھر جب بوڑھے ہو گئے تو اپنی آخری زندگی میں حسرت بھرے لہجے میں کہا کرتے تھے:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہدایات کو کیوں نہ قبول کیا اب اس آخر عمر میں معمولات کو پورا کرنے کی طاقت نہ رہی تاہم دیر سویر معمولات پورا کر لیا کرتے تاکہ معمولات فوت نہ ہوں۔ (بخاری ج ۲ ص ۷۵۵)

### حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ :-

مدینہ طیبہ کے رہنے والوں میں حضرت ابوطالبؓ مالدار اور صاحب جائیداد انسان شمار کئے جاتے تھے، ان کی جائیداد میں مسجد نبوی شریف کے بالمقابل ایک آباد باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی پینے کے لئے باغ تشریف لایا کرتے (ویسے بھی مدینہ طیبہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی آپ کی تشریف آوری سے کنویں کی

شان و آن بالا تر ہو گئی اور وہ باغ اور کنواں قیمتی اثاثہ شمار ہونے لگا، اور آج  
۱۲۲۸ھ یہ جگہ مسجد نبوی شریف کی توسیع میں شامل ہو گئی۔

جب قرآن حکیم کی آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . اَللّٰهُ  
(سورۃ آل عمران آیت ۹۲) نازل ہوئی۔

ترجمہ: تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو  
(اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے  
اور عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے عزیز و پسندیدہ مال میں بیڑھا (باغ) اپنے  
سب اموال سے عزیز تر ہے، یا رسول اللہ! میں اسکو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا  
ہوں آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں، میں اس باغ کا اجر و صلہ آخرت میں لینا  
چاہتا ہوں۔

حضرت ابو طلحہؓ کے اس گرانقدر مال کو آپ نے خوشدلی سے قبول فرمایا  
اور ارشاد فرمایا: ”یہ بہت ہی نفع بخش تجارت ہے“ (المحدث)  
تمہاری نیت و ارادے کو میں نے جان لیا، بہتر ہے تم اس باغ کو اپنے  
غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے اس باغ کے چند حصے کئے  
پھر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ (بخاری ج ۷ ص ۳۸۸)

**ملفوظ:** مفسر قرآن شاہ عبدالقادرؒ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  
”جس چیز سے دل بہت لگا ہو اُس کے خرچ کرنے کا بڑا اجر  
ہے یوں تو ثواب ہر چیز (کے خرچ کرنے) میں ہے۔  
(موضع التمرآن)

## حضرت ابو ہریرہؓ :-

حضرت ابو ہریرہؓ اپنا حال بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال بیان کرتے ہیں۔ بیت نبویؐ کے رہنے والوں نے وفات نبویؐ تک مسلسل تین دن پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔

یعنی ہر روز پیٹ بھر کھانے کو کوئی چیز میسر نہ ہوتی جو کچھ فراہم ہو جاتا وہ کھالیا کرتے پھر دوسرے دن کا کوئی انتظام نہ ہوتا، اسی طرح ہفتے اور مہینے گزر جاتے، اگر کسی دن پیٹ بھر غذا فراہم ہو بھی گئی تو دوسرے تیسرے دن کچھ نہ ہوتا۔

بیت رسولؐ کا یہ حال آپؐ کی وفات شریفہ تک ایسے ہی رہا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی تھا، ایک دن شدید بھوک نے بے چین کر دیا، مسجد نبویؐ سے باہر نکلا حضرت عمر بن الخطابؓ سے ملاقات ہو گئی جو اپنے گھر جا رہے تھے، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، مقصد تو یہ تھا کہ اس بہانے حضرت عمرؓ کے گھر تک چلوں شاید وہ کھانے کے لئے اپنے گھر لے چلیں لیکن میری یہ تدبیر کامیاب نہ ہو سکی، حضرت عمرؓ جو اب دے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور میں سلام کر کے واپس ہو گیا۔

کچھ ہی دور چلا تھا کہ بھوک کی شدت سے چکرایا اور گر پڑا، جب ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کھڑے پایا۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہؓ؟ میں نے لبتیک کہا (میں حاضر ہوں)۔



اُپ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ کو کھڑا کر دیا، میری حاجت کو محسوس فرمایا، اپنے ساتھ گھر لے گئے اور دودھ کا پیالہ عنایت فرمایا۔ میں نے اُسی وقت پی لیا، پھر دو سٹرا عنایت فرمایا وہ بھی پی لیا، پھر تیسرا پیالہ دیا فرمایا یہ بھی پی لو، میں نے اس کو بھی پی لیا۔ بھوکا تو تھا مجھ کو کچھ احساس نہ ہوا پیٹ مشکیزہ کی طرح ہو گیا پھر میں واپس ہو گیا۔

دوسرے دن حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی، کل والا قصہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی شان کریمی دیکھو وہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے۔ اے عمرؓ! اللہ نے تم سے بہتر انسان سے وہ کام لے لیا جس کا میں محتاج تھا۔

اے عمرؓ! میں نے تو صرف اپنی ایک حاجت کے لئے اُپ سے قرآن حکیم کی ایک آیت کا مطلب دریافت کیا تھا واللہ مجھ کو اس کی ضرورت نہ تھی، اس بہانے سے شاید اُپ اپنے گھر لے چلیں گے اور میں اپنی بھوک ختم کر لوں گا، لیکن میں اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہو سکا، میرے نصیب میں بیت نبویؐ کا حصہ تھا جو مجھ کو مل گیا۔

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا، اللہ کی قسم! اگر مجھ کو تمہارے حال کا علم ہوتا تو میں تم کو اپنے گھر ضرور لے جاتا، یہ سعادت مجھ کو قیمتی اونٹوں کے بدل جانے سے کہیں بہتر ثابت ہوتی۔

(بخاری شریف ج ۲ ص ۸۰۹)

## حضرت ابوالدرداء رضی

کثیر بن قیس کہتے ہیں، میں ایک دن حضرت ابوالدرداء رضی صحابی رسول کے ساتھ جامع مسجد دمشق (ملک شام) میں بیٹھا تھا ایک شخص آئے انھوں نے حضرت ابوالدرداء سے کہا، میں مدینۃ الرسول (مدینہ طیبہ) سے آیا ہوں، مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں میں اس حدیث شریف کو سنا چاہتا ہوں۔

حضرت ابوالدرداء رضی نے فرمایا ٹھیک ہے سنو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص طلب علم کے لئے راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ایسے شخص کے لئے اُس کی راہ میں اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، فرشتوں کا یہ اکرام طالب علم کی رضا و خوشنودی کے لئے ہوا کرتا ہے۔

عالم دین کے لئے زمین و آسمانوں کے رہنے والے دُعائے مغفرت کرتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لئے مغفرت کی دُعا کرتی ہیں۔

اور عالم کی فضیلت و بزرگی، عبادت گزار عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کو آسمان کے سارے ستاروں پر، اور علماء حضرات انبیاء علیہم السلام کے علمی وارث ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام اپنے ترکہ (میراث) میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ جاتے ہیں جس کو یہ علم مل گیا اس نے عظیم الشان حصہ پالیا۔

(ابوداؤد، ج ۲، کتاب العلم، حدیث ۳۶۴۱)

## اصحابِ الصُّفَّةِ :-

عزیم و بے سہارا مسلمانوں کی ایک جماعت مسجد نبوی شریف کے ایک جانب رہا کرتی تھی ان کے نہ اہل و عیال تھے نہ گھر بار، مسجد نبویؐ ہی ان کا گھر تھا، ان کا کام بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ کے ارشادات سماعت کریں پھر اپنی جگہ آجائیں ان حضرات کو اصحابِ الصُّفَّةِ کہا جاتا تھا۔

صُفَّةِ چوتراہ، بیٹھک کو کہتے ہیں چونکہ ان کا قیام اسی پر رہا کرتا تھا اس لئے انہیں اصحابِ الصُّفَّةِ کہا گیا، ان کی تعداد بڑھتے گھٹتے رہا کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ ستر افراد بیان کی جاتی ہے۔

اس جماعت کے سربراہ حضرت ابوہریرہؓ سمجھے جاتے تھے، ان حضرات کی خوراک کا انتظام اہل مدینہ کے باغات والے کیا کرتے اور بعض اہل خیر حضرات بھی۔

صحابی رسولؐ حضرت فضالہ بن عبید رض کا کہنا ہے کہ اس جماعت کے خورد و نوش کا کوئی مستقل انتظام نہ تھا، اکثر فقر و فاقہ ہی ان کی غذا ہوا کرتی، ان میں بعض حضرات بھوک کی شدت سے نمازوں میں کھڑے کھڑے گر پڑتے، اجنبی اور ناواقف ان کو دیوانے یا مریض خیال کرتے حالانکہ ایسا نہ تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے ان حضرات کے پاس تشریف لاتے اور انہیں تسلی دیتے اور ارشاد فرماتے: اگر تمکو یہ

معلوم ہو جائے کہ آخرت میں تم کو کیا کیا نعمتیں و سرفرازیاں ملنے والی ہیں تو اپنے اس فقر و فاقہ میں مزید اضافہ کی تمنا کرتے، اس پر ان حضرات کو تسلی ہو جاتی۔

صّفہ دراصل مسجد نبوی شریف کی درسگاہ تھی ان حضرات کا کام ارشادات نبوی کو محفوظ کرنا اور آپ کی صحبت سے استفادہ کرنا ہوا کرتا تھا۔  
(ترمذی، ج ۲ ص ۷۷)

آج ۱۴۲۸ھ یہ مقام اپنی اصلی جگہ پر موجود ہے لوگ اس پر نمازیں اور تلاوت قرآن اور دُعا کرتے ہیں۔

### حضرت مصعب بن عمیرؓ

سیدنا علیؓ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اچانک نوجوان صحابی مصعب بن عمیرؓ ایسی حالت میں آئے کہ سارے جسم پر صرف ایک پُرانی بیوند والی چادر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نظر پڑی آپ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ آپ انہیں نہایت ناز و نعمت اور ہمیشہ شاہی لباس میں دیکھا کرتے تھے۔ ان کی خستہ حالت محض ان کے اسلام قبول کرنے سے ہو گئی۔

ان کا باپ مدینہ طیبہ کے خوشحال و مالدار انسانوں میں شمار ہوتا تھا اپنے اکلوتے بیٹے مصعبؓ کو نہایت ناز و نعمت میں رکھتا تھا صبح ایک اور شام دوسرا لباس زیب تن کراتا اور ان کی شان و آن میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیتا لیکن جب مصعبؓ نے اسلام قبول کر لیا تو کافر باپ ناراض ہو گیا اور انہیں

گھر بندر کر دیا چلتے وقت ان کے جسم کا لباس بھی اُتار لیا یہ برہمنہ حالت میں باہر ہو گئے، کسی نے چادر دے دی اسکو لپیٹ لیا۔

ان کی سابقہ زندگی اور موجودہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنسو نکل پڑے، پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تم صبح کو ایک اور شام کو دوسرا لباس استعمال کرو گے تمہارے آگے ایک دسترخوان ہو گا تو دوسرا اٹھا لیا جائے گا، تم اپنے گھروں کو خوبصورت اور قیمتی پردوں سے اس طرح زینت دو گے جیسا خانہ کعبہ کو قیمتی پردوں سے زینت دی جاتی ہے۔

(آپ کے بیان کا یہ مقصد تھا کہ آئندہ تم پر بھی عیش و عشرت کی فسرا دانی ہوگی)

صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! تو پھر ہماری وہ زندگی آج کی تنگ زندگی سے بہتر ہوگی؟

آپ نے ارشاد فرمایا نہیں! نہیں! آج تم آنے والی زندگی سے بہتر زندگی میں ہو۔ (ترمذی ج ۱ ص ۷۴)

**ملفوظ** :- دُنیا کی کثرت اور فراوانی بظاہر خوشنما اور پرکشش

ہوا کرتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے لیکن اسلام نے دُنیا کی بُہتات کو آخرت سازی کے لئے خطرہ کی گھنٹی بھی تیار دیا ہے، تفصیل کسی عالم متقی سے دریافت کر لیں؟

## حضرت ابوالہیثم انصاریؓ:-

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف معمول اپنے حجرہ مبارک سے نکلے دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور عمر الفاروقؓ بھی باہر ہیں، فرمایا کیا بات ہے تم بے وقت باہر کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! آج دن بھر فاقہ تھا بے قراری نے گھر سے باہر کر دیا۔ پھر آپ نے بھی فرمایا مجھ کو بھی اسی بھوک نے باہر کر دیا ہے، آؤ کسی کے گھر چلیں۔

شہر کے کنارے ایک انصاری صحابی ابوالہیثمؓ کے گھر پہنچے جو گھر پر موجود نہ تھے، ان کی بیوی نے جو دیکھا خوشی و مسرت میں مرحبا اہلاً و سہلاً کہا۔

آپ نے فرمایا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا، اپنے باغ گئے ہیں کچھ ہی دیر بعد آنے والے ہیں ابھی کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ وہ انصاری صحابی آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلا گئے:

مَا أَحَدٌ إِلَيَّ مَرَّ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِّنِّي.

آج روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ کوئی باعزت ہو گا جو ان عظیم

مہمانوں کی میزبانی کا شرف پارہا ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

گھر کے صحن میں آپ کی استراحت کا انتظام کر دیا باغ کے تازہ کھجوروں کا ایک بڑا خوشہ رکھ دیا، عرض کیا یا رسول اللہ! تناول فرمائیے کچھ ہی دیر میں

گوشت تیار کر کے لے آتا ہوں، چاقو لیکر چلنے لگے ارشاد فرمایا، ابُو الہیثمؓ  
دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔

کچھ دیر نہ لگی گرم گرم بھنا گوشت لے آئے اور دسترخوان پر رکھ دیا۔ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب شکم سیر ہو کر کھائے میٹھا پانی جو  
ابھی ابھی باغ سے لایا گیا تھا نوش فرمایا۔ فراغت کے بعد آپ نے اپنے دونوں  
اصحاب سے فرمایا اس عظیم نعمت کا آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا  
کیا شکر یہ ادا کیا؟ تم کو بھوک پیاس نے گھر سے باہر نکالا تھا پھر تم شکم سیر  
ہو کر لوٹے۔ (مسلم نووی ج ۱ ص ۱۷۶)

سیدہ ام سلمہؓ :-

یہ خاتون حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ کی بیوی تھیں، ان کا ایک کھن بیمار  
لڑکا تھا، حضرت ابوطالبؓ بیوی کو ضروری اشیاء دیکر اپنی کسی ضرورت کے تحت  
سفر پر چلے گئے، اس عرصہ میں بچے کا انتقال ہو گیا، پڑوسیوں نے بچے کی  
تدفین کا انتظام کر دیا۔

چند دن بعد حضرت ابوطالبؓ واپس ہوئے رات کا وقت تھا بیوی نے  
ابوطالبؓ کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور آرام کے لئے بستر لگا دیا، ابوطالبؓ نے  
بچے کا حال پوچھا، بیوی نے کہا اب وہ پہلے کی نسبت پرسکون ہے۔ ابوطالبؓ مطمئن  
ہو گئے، کھایا پیا اور بمبستر ہوئے، فراغت کے بعد باہمت بیوی نے بچے کا حال  
سنا یا کہ وہ آپ کے جانیکے بعد وفات پا گیا، پڑوسیوں نے اس کا انتظام کر دیا۔  
بِئْتِي مَا أُعْطِيَ وَبِئْتِي مَا أَخَذَ جِسْنِي دِيَا أَسَى نِي لِيَا۔

ابو طلحہ رضی بیوی کے صبر و تحمل اور حسن عمل پر حیران رہ گئے، ساری رات بے سکونی میں گزر گئی، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا واقعہ سنایا اور امّ سلیم رضی کا عظیم کردار بھی بیان کیا، آپ بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ فرمایا، کیا تم نے بیوی کے ساتھ شب گزاری بھی کی؟

ابو طلحہ رضی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ!

آپ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس عمل میں برکت عطا فرما، اکیس دن کی شب گزاری سے سیدہ امّ سلیم رضی کو حمل قرار پایا، مدت حمل پوری ہوئی، بعد چاند سال لڑکا پیدا ہوا۔ ابو طلحہ رضی نے آپ کو خبر دی اور اس کو آپ کی جناب میں لے آئے، آپ نے ایک کھجور اپنے دہن مبارک سے چبایا اور اس کا لعاب نکال کر لڑکے کی زبان پر لگا دیا، نیچے کا نام عبداللہ رکھا اور اسکو دُعادی۔ (بخاری ج ۲ ص ۸۲۲)

**ملفوظ:** یہ لڑکا بچپن ہی میں حافظ قرآن ہوا پھر اس کی اولاد میں

جتنے بھی لڑکے ہوئے سب حافظ قرآن بنے۔

سیدہ امّ سلیم رضی کے اس بچے کا عرفی نام عمیر تھا، ماں نے اپنے بچے کے کھیل کود کیلئے ایک پرندہ پال رکھا تھا جس کا نام نغیر تھا، ابو عمیر اس سے خوب کھیل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت ابو طلحہ رضی کے گھر تشریف لاتے اس بچے سے پھیڑ چھاڑ فرماتے، کچھ دنوں بعد وہ پرندہ فوت ہو گیا ایک دن حسب معمول آپ تشریف لائے، ابو عمیر سے مزاحاً پوچھا: يَا بَاعِ مَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ۔ ابو عمیر تمہارا نغیر کہاں گیا؟



## حضرت عکاشہ بن محسن رضی

اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرامؑ اور ان کی قوموں کا مشاہدہ کروایا، غالباً یہ آپ کی بیداری کا واقعہ ہے جیسا کہ اکثر اہل علم لکھتے ہیں یا پھر خواب و کشف کا واقعہ ہے جیسا کہ بعض دیگر علماء کہتے ہیں بہر حال جو بھی ہو دونوں صورتیں وحی الہی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ نبی کی بیداری اور خواب کا حکم یکساں ہوا کرتا ہے۔

آپ کو گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی زیارت کروائی گئی اور ساتھ ہی ان کی اُمتوں کو بھی آپ پر پیش کیا گیا، کسی نبی کے اُمتیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور کسی کی کم، حتیٰ کہ بعض ایسے انبیاء علیہم السلام کو بھی دکھلایا گیا جن کا کوئی ایک اُمتی بھی نہ تھا (جس کا مطلب یہ تھا کہ بعض نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کو انکی قوم کے کسی ایک فرد نے بھی تسلیم نہیں کیا)۔ سبحان اللہ و بحمدہ پھر آپ کو انسانوں کا ایک پُر ہجوم مجمع دکھلایا گیا، آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ میری اُمت ہے؟ کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔

پھر مجھ سے کہا گیا، آسمانوں کے کناروں پر نظر ڈالیں؟ میں نے دیکھا آسمان کے چاروں کونے انسانی آبادی سے بھرے ہوئے ہیں مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی اُمت ہے۔

پھر مجھ سے کہا گیا اس عظیم تعداد میں ستر ہزار ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

راوی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کی کوئی خاص شناخت نہیں فرمائی۔ پھر آپ اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پڑ گئے آخر وہ کون لوگ ہوں گے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، جب آپ کو صحابہ کا تجسس و فکر معلوم ہوا باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

یہ میری اُمت کے وہ لوگ ہوں۔ گے جنہوں نے اپنی زندگی میں (ناجانم) جھاڑ پھونک (تعویذ گنڈا) نہ کئے ہوں اور نہ بد شگون (بدفالی) لی ہو اور نہ اپنے جسم پر دماغ لگائے ہوں (جیسا کہ اس عمل کو زمانہ قدیم میں جنات و شیاطین کا علاج کہا جاتا تھا) اور چوتھے وہ لوگ جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت پر ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں؟ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے، عکاشہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی یا رسول اللہ! دعاء فرمادیں عکاشہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! تم ان میں شامل ہو۔ اس مرحلے پر ایک اور صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے بھی دعاء فرمادیں، آپ نے فرمایا (سَبَقْتُكَ بِعَاءِ عَكَاشَةَ) عکاشہ رضی اللہ عنہ نے پہل کر لی۔ (بخاری ج ۲ ص ۸۵۰)

**ملاحظہ:**۔ اہل علم لکھتے ہیں شاید ستر ہزار کی تعداد میں ایک عدد باقی رہ گیا تھا وہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کا نصیب بن گیا۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عدد اضافہ کی اجازت دی گئی ہو مانگنے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے سبقت کر لی۔ وَاللَّهِ اعْلَمُ

## حضرت ماعز بن مالک رضی

حضرت ماعز رضی ایک غریب و بے سہارا انسان تھے ایک صاحب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا، جب جوان ہوئے تو پڑوس کی عورت سے بُرائی کر بیٹھے ان کے سرپرست کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ماعز رضی کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنا قصور انہیں بتا دو شاید وہ تمہاری مغفرت کی دعا فرمادیں اور تم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔

ماعز رضی آپ کی خدمت میں آئے اور اس طرح عرض کیا۔

یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے اللہ کا جو بھی حکم ہو مجھ پر جاری فرمادیں؟

آپ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے زنا

کیا ہے اللہ کا قانون جاری فرمادیں؟

آپ نے پھر بھی توجہ نہ فرمائی، تیسری مرتبہ پھر وہی کلمات کہے، آپ نے اسپر

بھی توجہ نہ فرمائی، جب ماعز رضی نے چوتھی مرتبہ کہا میں نے زنا کیا ہے مجھ کو پاک کر دیں؟

اس وقت آپ نے ماعز رضی سے کہا یہ بدکاری تم نے کس سے کی؟

ماعز رضی نے کہا، فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے۔

آپ نے تحقیق و تفتیش کے عنوان میں تین سوالات کئے:

هَلْ مَنَّا جَعَلْتَهَا، هَلْ بَاشَرْتَهَا، هَلْ جَامَعْتَهَا۔

تینوں سوالات کا ایک ہی مفہوم ہے، کیا تم نے حقیقی زنا کیا ہے؟ ماعز رضی

نے ہر سوال کا جواب جی ہاں! جی ہاں! کہہ دیا۔

ایک اور روایت میں اس تحقیق و تفتیش کے دوسرے الفاظ بھی ملتے

ہیں۔ اَفَنِكْتَهَا؟ قَالَ نَعَمْ۔ عربی زبان میں زنا کاری کی کامل مکمل شکل کو نِكْتَهَا کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ماعرِ بنی نے کہا، جی ہاں!

ایسے ہی آپ نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا، ارشاد فرمایا، تم زنا کاری جانتے ہو؟

ماعرِ بنی نے کہا، جی ہاں! یا رسول اللہ! میں نے اجنبی عورت سے وہ حرام کام کیا جو شوہر اپنی بیوی سے حلال کام کرتا ہے۔

آپ نے پھر ارشاد فرمایا آخر اس کلام سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ماعرِ بنی نے کہا یا رسول اللہ! اس گناہ سے مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔

اس مرحلے پر آپ نے قانونِ الہی نافذ کرنے والوں کو ہدایت فرمائی، ماعرِ بنی کو زخمِ کرم کر دیا جائے (پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے)۔

ماعرِ بنی کو مقامِ تڑہ (حدودِ الہی جاری کرنے کا مقام) لے گئے، پتھر مارنیوالوں کے حلقے میں ماعرِ بنی کو گھڑا کر دیا گیا۔ حضرت عبد اللہ بن اُنیس نے پہلا پتھر مارا پھر عام لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔

ماعرِ بنی پر چاروں جانب سے پتھر آ رہے تھے دوڑنے پلٹنے میں حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی، برداشت سے باہر ہو گئے، چیخنے چلانے لگے، پتھر انہیں ہلاک نہ کر سکے۔ لوگ بھی تھک گئے۔

حضرت عبد اللہ بن اُنیس نے اونٹ کے پیر کی ایک سوکھی ہڈی جو کچرے کے ڈھیر پر پڑی تھی اٹھائی اور ماعرِ بنی کے سر پر دے ماری ماعرِ بنی کو پتھر

اور فوت ہو گئے۔

پھر عبد اللہ بن اُنیسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور ماعزؓ کی تفصیل بیان کی آپؐ نے ارشاد فرمایا، جب ماعزؓ نے جُزَعِ فِزَعِ اور پناہ لینے کی کوشش کی تو تم نے اُنہیں موقعہ کیوں نہ دیا؟ چھوڑ دیا ہوتا شاید وہ اپنے اعترافِ جرم کو واپس لے لیتا۔

(اقراری مجرم اپنے اقرار کے بعد اقرار واپس لے لے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے فیصلہ یومِ آخرت میں ہوگا، کیونکہ یہاں سرفِ مجرم کے اعترافِ جرم پر قانون جاری کیا گیا تھا مجرم نے اپنا اعتراف واپس لے لیا تو قانون بھی واپس لے لیا جائے گا)۔

بہر حال ماعزؓ پر قانون الہی جاری کرنے کے بعد صحابہ واپس ہو رہے تھے درمیانِ راہ ایک دو صاحب اس حادثہ پر تبصرہ کرنے لگے، ایک نے کہا دیکھو تو سہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماعزؓ کے اعترافِ جرم سے چشم پوشی کرنی چاہی اور بار بار اپنا چہرہ پھیرتے رہے تاکہ وہ چپ چاپ اپنے آپ توبہ کر لے اور قانونِ الہی کو چیلنج نہ کرے توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن ماعزؓ نے اللہ کے اس نرم قانون سے فائدہ نہ اٹھایا اور بار بار اعترافِ جرم کرتا رہا، آخر انجام کیا ہوا؟ کتے کی طرح مارا گیا۔ (العیاذ باللہ)

غالباً اس ہجوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے یا پھر کسی نے آپؐ کو اس تبصرہ کی اطلاع دی۔

آپؐ نے ان دو تبصرہ نگاروں کو طلب فرمایا، شہر کی کچرا گاہ پر جہاں ایک سڑاگلا گدھا پڑا تھا آپؐ نے اُن دونوں تبصرہ نگاروں سے فرمایا، اس

مردار کا کچھ حصہ کھا لو؟

دونوں نے کہا، یا رسول اللہ! اس کو کسی نے کھایا بھی ہے؟  
فرمایا، ابھی تو تم نے اپنے بھائی (ماعز بن) کی جو بُرائی کی ہے وہ اس سڑے  
گلے مردار کے کھانے سے زیادہ ناپاک و خطرناک تھی، اب تم کو اس ہلکی و معمولی  
چیز کے کھانے میں کیوں تردد ہے؟ (دونوں تبصرہ نگار لرز گئے)  
پھر ارشاد فرمایا، اس ذاتِ پاک کی قسم جس کے دستِ اقدار میں میری  
حیات ہے میں اس وقت ماعز بن کو جنت کے باغ و بہار اور اسکی صاف و شفاف  
نہروں میں غوطہ خوری کرتا دیکھ رہا ہوں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(ابوداؤد شریف، کتاب الحدود)

**ملفوظ:** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن کے اعتراف  
گناہ پر ہر بار توجہ نہ دی اور چشم پوشی اختیار فرماتے رہے آپ کا یہ عمل  
دانستہ و ارادی طور پر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا کاری کا ثبوت دو طریقوں  
سے ثابت ہوا کرتا ہے۔

پہلا تو یہی کہ گناہ گار خود اپنے گناہ کا اقرار کرے جیسا کہ حضرت  
ماعز بن نے کیا، ایسی صورت میں کسی شہادت، گواہی وغیرہ کی ضرورت نہیں  
پڑتی سزا جاری کر دی جاتی ہے۔

دوسری صورت یہ کہ شوہر کا اپنی بیوی پر الزام لگانا یا گواہوں کی گواہی  
سے زنا کاری کا ثبوت فراہم کرنا، اس کی بحث طویل ہے، کتب فقہ میں  
اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

پہلی صورت میں چونکہ مجرم نے بلا کسی جبر و اکراہ اپنے جرم کا اقرار کیا

ہے ایسی صورت میں قاضی اس کو ڈھیل یا مہلت (شُبہ کا فائدہ) دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اقرار گناہ پر غور کر کے اپنا اقرار واپس لے لے پا پھر بغیر اقرار و اعتراف تنہائی میں توبہ و استغفار کر کے اللہ کے حوالہ ہو جائے اور معافی کی امید رکھے۔

اگر مجرم نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ دُنیا ہی میں اللہ کا قانون خود پر جاری کرنے کا اصرار کرے تو اس پر قانون جاری کر دیا جاتا ہے (ایسی صورت میں انشائاً اللہ وہ آخرت کے مواخذہ سے محفوظ ہو جاتا ہے)۔

لیکن اس صورت میں اُس مجرم کو مزید یہ بھی گنجائش حاصل ہے کہ قانون جاری ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنا اقرار واپس لے سکتا ہے ایسی صورت میں اُس کی سزا موقوف کر دی جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چونکہ خود اس کے اپنے اقرار سے سزا جاری کی گئی تھی، افسر واپس لے لینے سے سزا بھی واپس لے لی جائے گی۔

مذکورہ واقعہ میں حضرت ماعزؓ پر جب سزا جاری ہو گئی تو وہ برداشت نہ کر سکے بھاگنے اور چھینچنے چلانے لگے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سزا کو قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن قانون جاری کرنے والے چونکہ پورے قانون سے واقف نہ تھے انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اسی فروگزاشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ماعزؓ کو موقعہ و مہلت کیوں نہ دی گئی؟

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## غامدہؓ کی توبہ :-

عرب کے قبیلہ غامدہ کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس طرح گویا ہوئی، یا رسول اللہ! میں نے بڑا گناہ کیا ہے (اِنَّكَ قَدْ فَجَرْتُمْ)، آپ نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی، فرمایا اپنے گھر چلی جا۔ دوسرے دن پھر آئی، کہنے لگی شاید آپ ماعز بن مالکؓ کی طرح مجھ کو بھی واپس کرنا چاہتے ہیں؟

اللہ کی قسم! زنا کا حمل قرار پا چکا ہے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا، اپنے گھر چلی جا، واپس ہو گئی، تیسرے دن پھر آئی اور گناہ کا اعتراف کیا (مطلب یہ تھا کہ مجھ کو گناہ سے پاک کر دیا جائے)۔

آپ نے ارشاد فرمایا، جب ولادت ہو جائے آجانا۔

عورت چلی گئی کچھ دن بعد ولادت ہو گئی، نہلا دھلا کر بچے کو لے آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ وہی بچہ ہے۔

آپ نے ہدایت فرمائی، اس بچے کو دودھ پلا جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔

کچھ عرصہ بعد اس حال میں آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ! اب تو یہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے اب مجھ کو میرے گناہ سے پاک کر دیجئے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ایک صاحب کے حوالہ کیا اور فرمایا کہ اس کی پرورش تمہارے ذمہ ہے، پھر حدود جاری کرنے والوں کو



حکم دیا کہ قد آدم گڑھا تیار کیا جائے اور عورت کو اس میں کھرا کر کے چار جانب سے سنگباری کی جائے یہاں تک کہ عورت فوت ہو جائے۔

چنانچہ ایسے ہی کیا گیا چاروں جانب سے پتھروں کی بارش ہونے لگی عورت بڑی سخت جان تھی گرنہ سکی، پتھر مارنے والوں میں حضرت خالد بن ولیدؓ نے پوری قوت سے ایک پتھر پھینکا، عورت کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور خالدؓ کے چہرے پر اس کے چند قطرے بھی پڑے، حضرت خالدؓ نے جھنجھلا کر ایک سخت کلمہ کہہ دیا پھر کچھ دیر بعد عورت نے دم توڑ دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگساری کی جب تفصیل بیان کی گئی تو اس میں حضرت خالد بن ولیدؓ کا کارنامہ بھی بیان کیا گیا، آپؐ نے خالدؓ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا:

خالدؓ تم نے یہ کیا حرکت کی اور اس کو گالی دی، اس ذاتِ عالی کی قسم جسکے دستِ اقتدار میں محمدؐ کی حیات ہے اس عورت نے ایسی سچی و پکی توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو ظالم پر بھی ڈال دی جائے اسکی مغفرت ہو جائے۔ (خالدؓ بہت شرمندہ ہوئے) پھر آپؐ نے اُسکی صلوٰۃ جنازہ ادا کر نیکاً حکم دیا، سیدنا عمر الفاروقؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ایسی عورت کی صلوٰۃ جنازہ ادا کیجائے جس نے زنا جیسا بد عمل کیا ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا، اے عمرؓ! اُس عورت نے ایسی سچی و پکی توبہ کی ہے اگر اُس توبہ کو شہر مدینہ کے ستر گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو سبکی مغفرت ہو جائے، اس سے بہتر بھی کوئی کردار ہو گا جس نے حدِ حوالہ جاری کرنے کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہو؟ اللہ اکبر

**ملفوظ:** سارے آسمانی مذاہب میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے ماننے والوں نے اسکے قوانین و احکام کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس پر عمل آوری کا بھی

ثبوت دیا ہے۔ حدودِ الہی کو اپنے آپ پر جاری و نافذ کرنا کوئی ایسا ویسا کام نہیں بڑے بڑے حوصلے و ارادے والوں کے پتے پانی پانی ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے والوں پر یہ عمل کچھ بھاری نہ تھا بلکہ محبوب و پسندیدہ ہوا کرتا تھا۔ دنیا تو صرف آخرت کی صلاح و فلاح کیلئے بنائی گئی ہے ”پاداشِ عمل“ ایک حقیقت ہے اصحابِ رسول پر یہ بات نہایت گراں تھی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ آخرت میں دیکھیں وہ دنیا کے دانستہ و نادانستہ گناہوں کا حساب کتاب اسی دنیا میں پاک صاف کر لینا چاہتے تھے تاکہ آخرت کی پاکیزہ و اعلیٰ حیات نصیب ہو۔

ما عزم بن مالکؓ ہوں یا قبیلہ غامدیہ کی خاتون اسی پاکیزہ جذبہ کے تحت انہوں نے اپنا گناہ اسی دنیا میں پاک و صاف کر لینا چاہا پھر انہوں نے اپنی مراد بھی پالی دنیا سے پاک ہو کر آخرت کی راہ لی۔ رضی اللہ عنہم

زنا کاری کی یہ سزا اسلامی قانون میں ”رجم“ کہلاتی ہے جسکے معنی سنگسار کرنا، سنگساری کا یہ عمل زنا کار کے شادی شدہ ہونے پر مختلف ہو جاتا ہے، اگر شادی شدہ ہو (خواہ مرد یا عورت) اسکو سنگسار کیا جاتا ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہو اسکی پُشت پر توتو کوڑے برسادیئے جاتے ہیں اس عمل کو ”جلد“ کہا جاتا ہے۔

سنگساری کا یہ عمل زنا کار مردوں پر تو کھلے عام میدان میں کیا جاتا ہے (تاکہ زنا کاروں، ظالموں کیلئے عبرت بنے)۔ البتہ عورت پر کھلے عام میدان میں یہ سزا جاری نہیں کی جاتی بلکہ اس کیلئے قد آدم گڑھا تیار کر کے اسیں عورت کو کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر اسی میوہ گڑھے میں اسکو سنگسار کر دیا جاتا ہے، یہ اس لئے کہ کھلے میدان میں عورت دوڑ دھوپ سے برہنہ نہ ہو جائے۔

(ابوداؤد شریف کتاب الحدود)

## مسجد قبا (مدینہ منورہ) کے امام:

مدینہ منورہ کی مسجد قبا میں ایک صحابی مصلیوں کی امامت کرتے تھے لیکن وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل ہو اللہ احد ضرور پڑھتے پھر اسکے بعد کوئی ایک اور سورہ پڑھ کر رکوع کرتے، مصلیوں نے ان سے دریافت کیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنا کافی ہے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھنا ضروری ہے؟

امام صاحب نے کہا، میں سورہ قل ہو اللہ احد کو ترک نہیں کر سکتا اگر تمکو میری اس طرح امامت پسند نہ ہو تو مجھے اجازت دید میں پہلا جاؤنگا کسی اور کو اپنا امام بنا لو چونکہ مسجد کے سالے مصلی انکی امامت سے خوش تھے اسلئے کسی دوسرے کو پسند نہ کر سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ صورتحال بیان کی گئی آپ نے امام صاحب کو طلب فرمایا اور دریافت کیا آخر کیا بات ہے جو مصلی حضرات تمکو پابند کرتے ہیں؟ اور تم ہر رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟

امام صاحب نے کہا یا رسول اللہ! مجھکو سورہ قل ہو اللہ احد سے بحد محبت ہے اس سورہ میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں مجھکو اپنے رب کی صفات پسند ہیں۔ یہ سنکر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تو تمکو اسکی محبت جنت میں داخل کر دیگی۔

(ترمذی ج ۲ ص ۱۱۹، بخاری و مسلم)

**ملفوظ:** - "پھر تو تمکو اسکی محبت جنت میں داخل کر دیگی۔" (الحديث)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشاء سورہ قل ہو اللہ احد کی محبت سے

متعلق ہے نماز کے طریقے سے اس کا تعلق نہیں نماز تو اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس کا طریقہ احادیث و عمل صحابہؓ میں موجود ہے۔

آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ سورۃ قل ہُوَ اللہ اُحد سے خصوصی محبت رکھنا ایسا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جسکی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ گویا جس نے سورۃ قل ہُوَ اللہ اُحد سے محبت رکھی یہ محبت اسکو جنت میں داخل کر دیگی۔ وَاللہ اعلم

## حضرت عقبہ بن نافعؓ

مؤرخ اسلام علامہ واقدیؒ اور مؤرخ اسلام عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطابؓ نے حضرت عقبہ بن نافعؓ صحابی رسولؐ کو بڑا عظیم افریقہ کی ایک مہم پر روانہ کیا جہاں ایک فوجی چھاؤنی قائم کرنی تھی، حضرت عقبہؓ مسلمانوں کا ایک لشکر لیکر روانہ ہوئے، جب افریقہ کی سرحد پر پہنچے دیکھا کہ سارا خطہ گھنے جنگلات اور ہر قسم کے حیوانات، درندے، پرندے، خواںخوار جانوروں سے پٹا پڑا ہے، قیام تو کیا ہوگا داخلہ مشکل نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ موسم نہایت خشک اور پانی کی اس قدر قلت کہ باہمت فوج بھی بے دم ہو گئی۔

حضرت عقبہؓ نے اس دھیری صورت حال پر فوج کو جمع کیا اور راہ خدا کی جہاد کا ایمان افروز درس دیا، آخر میں علیؓ درس یہ دیا فرمایا، اُو پہلے اپنے رب سے مدد طلب کر لیں، دو رکعت نفل نماز پڑھائی پھر پانی کیلئے دعا کی، دعا ختم بھی ہونے نہ پائی تھی اچانک بادل چھا گئے اور ایسی بارش شروع ہوئی کہ جنگل جل تھل ہو گیا، ساری فوج نے نہایا دھویا جانوروں کو سیراب کیا اور پانی کا ذخیرہ کر لیا، تازہ دم ہو گئے، اسکے بعد حضرت عقبہؓ نے جنگل کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ ندا لگائی:

يَا أَهْلَ الْوَادِي — إِنَّا جَاءْنَاكَ إِن شَاءَ اللَّهُ فَاطْعَنُوا۔

اے وادی کے بسنے والو! ہم یہاں آباد ہو رہے ہیں تم سب وادی خالی کر دو۔  
حضرت عقبہؓ نے یہ ہدایتیں مرتبہ لگائی، کچھ دیر نہ لگی درختوں کے پرندے، زمین اور زیر زمین کے جانور اپنے اپنے کنبے کو لئے نکلنے لگے، ایسا معلوم ہوا ہاتھاکہ خونخوار وحشی جانوروں کا ایک منظم لشکر ہے جو وادی سے رُواں دُواں، ہو رہا ہے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے بچوں کو اپنی پشتوں پر لئے نکل گئے، شام تک پورا علاقہ خالی ہو گیا۔  
حضرت عقبہؓ نے اپنے لشکر سے فرمایا، بسم اللہ وادی میں اتر پڑو اور اپنا ٹھکانہ بنا لو۔  
مورخین لکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن نافعؓ مستجاب الدعوات صحابی تھے،  
سلام میں کسی حادثہ میں شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ، (سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۲۹ و ۲۰۸)

## حضرت حسان بن ثابتؓ :- المتوفی ۵۴ھ

حضرت حسان بن ثابتؓ صحابی رسول اچھے شعر کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی مجلس شریف میں حضرت حسانؓ کو طلب فرمایا کرتے اور اسلام و مسلمانوں کی تعریف و توصیف میں اشعار سماعت فرماتے اور دعا بھی دیتے، اے اللہ! حسان کی روح القدس سے تائید فرما۔

حضرت حسانؓ مشرکوں کے گستاخانہ اشعار کا جواب اشعار ہی میں دیا کرتے تھے  
حضرت حسانؓ کا یہ جواب کافروں پر تیر و تفتنگ سے بھی زیادہ بھاری پڑتا تھا۔

حضرت حسانؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی عقیدت و محبت تھی  
اسکے باوجود واقعہ افک میں (اسکی تفصیل ہماری کتاب ہدایت کے چراغ جلد ۲ ص ۶۸۹ پر مطالعہ کیجئے) حضرت حسانؓ سے ایک بشری لغزش سرزد ہو گئی جسکے بارے میں

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرمایا کرتی تھیں:  
حَسَّانٌ رَضِيَ كُؤْبْرَانَهُ كِهْوَانُ كِي خَطَا كَا صِلَهٗ اُنْهِيں بَاتِهٖ دَرِبَاتِهٖ دُنْيَا هِي مِيں مَل كِيَا  
(یعنی وہ اپنی آخری عمر میں بیٹائی سے محروم ہو گئے تھے) لیکن میں اللہ سے اُمید  
رکھتی ہوں کہ وہ جنت نصیب ہونگے، کیونکہ انھوں نے اپنے دفاعی اشعار میں بوسفیان  
بن الحارث (مشرک سردار کے اشعار) کا جواب دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کی شانِ اقدس میں گستاخی و توہین تھی جس کے دوشتر یہ ہیں:

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَاحْبَبْتُ عَنْهُ      فَعِنْدَ اللّٰهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءِ  
فَاِنَّ اَبِيَّ وَوَالِدِيَّ وَعِزِّي      لِيَعْرِضُ مُحَمَّدًا مِنْكُمْ وَقَاءِ

(سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۸۶، ذہبی)

## حضرت عرباض بن ساریہؓ: المتوفی ۵۷ھ

حضرت عرباض بن ساریہؓ اصحابِ الصفہ میں ممتاز صحابی رسول ہیں، یہ اُن  
اصحابِ رسول میں جنکے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيْتَخِمْلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ

عَلَيْهِمْ وَتَوَلَّوْا - الْاَيَةُ (سورہ توبہ آیت ۷۱)

ترجمہ :- اور نہ ان لوگوں پر گناہ ہے کہ جموقت وہ آپکے پاس اس واسطے آتے  
ہیں کہ آپ ان کو کوئی (جہاد کیلئے) سواری دیدیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس  
تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تمکو سوار کروں تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے  
ہیں کہ اُن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اس غم میں کہ انکو خرچ کیلئے  
کچھ بھی میسر نہیں (تاکہ وہ جہاد میں شریک ہو سکیں)۔

(تفصیل کیلئے ہماری کتاب "ہدایت کے چراغ" جلد ۲ ص ۶۲۶ مطالعہ کیجئے)۔

حضرت عرباض بن ساریہؓ وفات نبویؐ کے بعد شہرِ تمص (ملکِ شام) میں مقیم ہو گئے وہاں احادیثِ نبویؐ بیان کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عمروؓ سلمی اور حضرت حجر بن حجرؓ بیان کرتے ہیں ہم دونوں نے حضرت عرباض بن ساریہؓ کی زیارت کیلئے ملکِ شام کا سفر کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا اور یہ عرض کیا کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے آئے ہیں براہِ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مشرف فرمائیں۔

حضرت عرباض بن ساریہؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بعد نماز فجر وعظ فرمایا، وعظ ایسا فصیح و بلیغ و پُر اثر تھا کہ سننے والوں کے آنسو بہنے لگے اور قلوبِ خشیتِ الہی سے کانپنے لگے، فراغت کے بعد ہم نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری وعظ ہے۔ براہِ کرم اس کا خلاصہ ارشاد فرمادجئے تاکہ ہم مضبوطی سے اس پر قائم رہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا:

”سب سے پہلے تو میں تمکو تقویٰ اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ تمھارا حاکم معمولی شخصیت والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میری وفات کے بعد جو لوگ موجود رہیں گے وہ عنقریب اختلافات دیکھیں گے ایسے وقت تمکو میری سنت اور خلفاءِ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے ایسی مضبوطی جو منہ کے اگلے دانتوں کی گرفت سے پیدا ہوتی ہے، دین میں نئی نئی باتوں سے تمکو دور رہنا چاہیے کیونکہ دین میں نئی بات بدعت کبلاقی ہے اور ہر بدعت گمراہی و بے دینی ہے۔“

(سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۹۲ الذہبیؒ)

## حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہما

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت نے آپؐ کو دیکھا وہ آپؐ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔

اس کے بعد خواتین میں دوسری شخصیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ ام الفضل لبابہ بنت الحارث البہالیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۴۱) اور خاندان بنو ہاشم میں سب سے آخر جن صاحب نے آپؐ کو دیکھا اور ملاقات کی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ہیں اور اس روئے زمین پر سب سے آخری صحابی حضرت ابوالطفیل عامر رضی اللہ عنہ تھے۔

امام وہب بن جریر کہتے ہیں میں نے اپنے والد بزرگوار کو یہ سرکاتے سنا ہے، میں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا، ایک جنازہ دیکھا جس میں کثیر افراد شریک تھے میں نے میت کے بارے میں دریافت کیا تو کہا گیا کہ یہ حضرت ابوالطفیل عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت ابوالطفیل عامر کا پورا نام عامر بن واثلہ بن عبداللہ بن عمرو البلیشی الکہنانی تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ (سیر اعلام النبلاء ج ۱)

آپؐ کی وفات پر روئے زمین کا آخری صحابی رخصت ہوا۔

رَضُوا لَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ۔



# اکس جلیل القدر ماہرین کرام

رحمہم اللہ تعالیٰ

بالذی

حضرت مولانا محمد عبد الرحمان منطوقی  
ناظم مجلس علمیہ حیدرآباد دکن

مجازیہ

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم

ادارہ ایس ایم ایس  
کراچی، لاہور

- حضرت اویس قرنیؓ
- حضرت ابو مسلم خولانیؓ
- حضرت ربیع بن خثیمؓ
- حضرت علقمہ بن قیسؓ
- حضرت اسود بن یزیدؓ
- حضرت قاضی شریحؓ
- حضرت عروہ بن الزبیرؓ
- حضرت سعید بن المسیبؓ
- حضرت سعید بن جبیرؓ
- حضرت عامر بن شراحیلؓ
- حضرت طاؤس بن کیسانؓ
- حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ
- حضرت حسن بصریؓ
- حضرت امام ابن سیرینؓ
- حضرت عطاء بن ابی رباحؓ
- حضرت ایاس بن معاویہؓ
- حضرت ابن شہاب زہریؓ
- حضرت زبیبہ الرائیؓ
- حضرت سلم بن دینارؓ
- حضرت سلیمان اعمشؓ
- حضرت عامر تمیمیؓ